

ایمانِ ابی طالب

اکابرین اہلسنت کی نظر میں

حضرت علامہ مولانا

صوفی سردار محمد نشان قادری مدظلہ



Click For More Books

<https://archive.org/details/@zohaibhasanattari>

ایمان ابی طالب

﴿ اکابرین اہل سنت کی نظر میں ﴾

حضرت علامہ مولانا صوفی سردار محمد نشان قادری

(خطیب اعظم کامونگی)

برادر اصغر

امام المناظرین حضرت علامہ مولانا صوفی محمد اللہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ

دفتر مجلس رضا / مسلم کتابوی

گنج بخش روڈ دربار مارکیٹ لاہور

Click For More Books

<https://archive.org/details/@zohaibhasanattari>

﴿۲﴾

اللَّهُ رَبُّ مُحَمَّدٍ صَلَّى عَلَيْهِ وَسَلَّمَ
نَحْنُ عِبَادُ مُحَمَّدٍ صَلَّى عَلَيْهِ وَسَلَّمَ
﴿سلسلہ اشاعت نمبر 38﴾

ایمان ابی طالب اکابرین اہل سنت کی نظر میں	_____	نام کتاب
حضرت علامہ مولانا صوفی سردار محمد نشان قادری	_____	مؤلف
۸۰	_____	صفحات
جنوری ۲۰۱۹ء مطابق جمادی الاول ۱۴۴۰ھ	_____	تاریخ اشاعت
مرکزی مجلس رضا لاہور	_____	ناشر
ایک ہزار	_____	تعداد
100 روپے	_____	قیمت

ملنے کا پتہ

دفتر مجلس رضا / مسلم کتابوی

گنج بخش روڈ دربار مارکیٹ لاہور

Click For More Books

<https://archive.org/details/@zohaibhasanattari>

پیش لفظی

اس بات پر جمہور امت کا اجماع ہے کہ قرآن و حدیث کی رو سے ابوطالب نے کلمہ نہیں پڑھا۔ وقت نزع ابوطالب نے کلمہ پڑھنے کا انکار بھی کیا۔ اس بات پر دلائل شرعیہ شاہد ہیں جو کوئی دلائل شرعیہ کی مخالفت کرے۔ اس کی بات ہمارے لئے حجت نہیں۔ نقل کے آگے عقلی دلائل کی کوئی حیثیت نہیں۔ ہم جو بات لکھیں گے وہ از روئے قرآن و حدیث لکھیں گے۔ مرتب کتاب کی طرح لایعنی بات کا جواب لکھنے سے گریز کریں گے۔ ہم صحابہ کرام علیہم الرضوان، تابعین کرام و ائمہ کرام علیہم الرضوان کا عقیدہ نقل کر کے مسئلے کی صحیح نوعیت بیان کریں گے۔

اللہ تعالیٰ سے دعا ہے وہ میری اس سعی کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما کر توشہ آخرت بنا دے۔ آمین ثم آمین۔ بجاہ طہ و تسبین۔

نیاز آگین سردار محمد نشان قادری

بتاریخ ۲۰۱۸-۱-۳ بروز بدھ

منشاء تائبش آف مرید کے ضلع شیخوپورہ کی کتاب سیدنا ابوطالب جو کہ جھوٹ کا پلندہ ہے۔ اس کے ڈھول کا پول ہم کھولیں گے کہ یہ کتنا کاذب شخص ہے اور اس کے رافضی ہونے میں شک نہیں۔

Click For More Books

<https://archive.org/details/@zohaibhasanattari>

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ

رضی اللہ عنہ

سیدنا غوث الوسی

اور

غوث الوسی و نایبش قصوی

شہزادہ

از

مولانا محمد جاوید اکبر قادری
سن پورہ لاہور

Click For More Books

<https://archive.org/details/@zohaibhasanattari>

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ

مولانا منشاء تابش قصوری کی کتاب پر تبصرہ

أَشْهَدُ أَنْكَ رَسُولَ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْكَ وَسَلَّمَ

اس دور کی دنیائے علم کی ایک عظیم مادر علمی کا نام جامعہ نظامیہ رضویہ لاہور ہے۔ اس کے مہتمم اور صدر مدرسین رحمۃ اللہ علیہما کی علمی۔ تدریسی اور اشاعتی خدمات سے ایک زمانہ واقف ہے۔ خصوصاً: اعتقادی محاذ پر اور تائید اہل سنت کے حوالے سے جامعہ نظامیہ رضویہ اور اس کے ذیلی اداروں سے چھپنے والا لٹریچر جہاں سنیت میں ایک خاص مقام رکھتا ہے۔ حضرت مفتی قبلہ عبدالقیوم ہزاروی رحمۃ اللہ علیہ اور صدر المدرسین علامہ عبدالحکیم شرف قادری علیہ الرحمہ کے جو لوگ دست و بازو اور مشیر خاص قرار پاتے تھے۔ ان میں ایک نام مولانا محمد منشاء تابش قصوری کا بھی ہے۔ وہ طویل عرصہ سے جامعہ سے وابستہ رہے۔ اور عرصہ دراز تک جامعہ میں فارسی ادب پڑھاتے رہے۔ تو اہل محبت ان کو ”خوشبوئے سعدی“ کا لقب دیتے تھے۔ جب ان کے نام سے ایک کتاب مکی بہ

”دعوت فکر“

شائع ہوئی۔ تو تمام وہابیہ بالخصوص دیابنہ کے گھروں میں صف ماتم بچھ گئی۔ جب امریکہ کے حکم سے حرین شریفین پر قابض آل ربیعہ موجودہ نام آل سعود نے فروغ وہابیت کے لئے

Click For More Books

﴿ ۶ ﴾

ریالوں کی تجوریاں کھولیں۔ جس کا اعتراف موجودہ قابض الحرمین الشریفین سلیمان بن قذافی نجد عبدالعزیز نجدی ربیع کے بیٹے اور ولی عہد محمد بن سلیمان نجدی نے خود کیا ہے۔ نجدی شہزادے اور ولی عہد کے اس اعتراف پر پاکستان کے نجدی و ہابیوں اور نجدی دیوبندیوں کو ایسا سانپ سونگھا ہے جیسے یہ لوگ مائی مکلی قبرستان ٹھٹھہ کے اولین مدفون ہوں۔

الْحَقُّ يَعْلُو وَلَا يُعْلَى عَلَيْهِ۔

ان تجوریوں کے کھلنے کی دیر تھی۔ کہ پاکستان کے غیر مقلدین و ہابیوں نے شیخ نجدی قرن الشیطان ابن عبدالوہاب تمیمی نجدی کی کتاب ”التوحید“ اور وہابیان نجدی کی دوسری کتب شائع کر کے مفت تقسیم کرنا شروع کیں۔ تو پاکستان کے دیوبندیوں نے بھی بہتی گنگا میں نہانے کی ٹھان لی حالانکہ ان کے بڑے و ہابیوں کو خونخوار، باغی اور یہود و نصاریٰ سے زیادہ قابل نفرت مخلوق لکھ چکے ہیں۔ اور وہابیوں کے غبیث ہونے کی پوری گردان لکھی ہے۔ ملاحظہ ہو ”الشہاب الثاقب“ ان دنوں ایک آدمی نے علامہ عبدالحکیم شرف قادری رحمۃ اللہ علیہ سے کہا کہ ان کتابوں کا جواب ہونا چاہیے۔ جس کے جواب میں شرف صاحب نے فرمایا کہ یہ بات کسی نے میاں صاحب سے کہی تھی۔ (میاں صاحب سے ان کی مراد کے کون بزرگ ہیں؟ یہ معلوم نہ ہو سکا۔ تو میاں صاحب کہنے لگے کہ وہابیہ کی تمام کتب کا جواب آچکا ہے۔ ا۔ حضرت مفتی عبدالقیوم ہزاروی

(رحمۃ اللہ علیہ) نے نام سے چھپنے والی کتاب ”ماربج نجد و حجاز“ اور دوسری کتاب مولانا محمد منشاء تابش قصوری کے نام سے چھپنے والی

”دعوت فکر“

یہ دونوں کتابیں نجدیوں کی تمام تحریروں کا مکمل جواب ہیں۔ اس کی اشاعت پر اہل سنت کے علمی حلقوں نے تابش صاحب کو کھل کر داد دی۔ اور ان کی قدر و منزلت

Click For More Books

میں گرانقدر اضافہ ہونا تو ایک قدرتی امر تھا۔ ان کے مضامین، اشاعتی سرگرمیاں اور جامعہ نظامیہ سے دیرینہ تعلق اور فارسی ادب کی تدریس کی بناء پر ایک ادیب کے طور پر منظر عام پر آگئے۔ مگر بقول دانشمنداں بھریا اس کا جائزے جس کا توڑ چڑھے۔ چند ماہ قبل ان کی ایک کتاب بنام ”سیدنا ابوطالب رضی اللہ عنہ“ منظر عام پر آئی جس میں اشاعت اول ذوالحجہ 1438ھ بمطابق ستمبر 2017ء درج ہے۔ کسی مسئلہ میں دوران تحقیق رائے کا مختلف ہونا ممکن ہے۔ مگر ایک غیر ضروری مسئلہ کو انتہائی اہم بنا دینا۔ جس سے اہل ایمان میں انتشار پیدا ہو۔ اور ارتعاش کی کیفیت جنم لے انتہائی غیر مناسب رویہ ہے۔ بالخصوص اس گئے گزرے دور میں جہاں اہل حق کے معاندین جن کے بارے میں نبی کریم ﷺ نے فرمایا۔ **أَلْسِنَتُهُمْ أَحْلَىٰ مِنَ الشُّكْرِ وَ قُلُوبُهُمْ قُلُوبُ الذِّيَابِ** (ترجمہ: ان کی زبانیں شکر سے زیادہ میٹھی اور ان کے دل بھیڑیوں والے ہونگے۔ یہ قلوب الذیاب رکھنے والے مانند ذیاب (گرگان کہن) اہل سنت و جماعت درود و سلام والوں پر حملہ آور ہیں۔ ان حالات میں ایک بالکل غیر ضروری مسئلے کو اس انداز میں زیر بحث لانا۔ جس سے اہل سنت کی صفوں میں انتشار پڑے اور بڑھے۔ یہ کونسی دین کی خدمت ہے؟ ہم ایسے ناقص العلم کی سوچ سے باہر ہے۔ مولانا منشاء تائبش قصوری کی جس انداز سے شہرت تھی اس سے ہٹ کر انہوں نے اپنی کتاب کا آغاز سورۃ منافقوں کی آیت سے کیا ہے۔ اس کے بعد ”سورۃ بقرہ“ کے دوسرے رکوع کی جو آیات منافقین سے تعلق رکھتی ہیں ان کا ترجمہ ذکر کیا ہے۔ پھر یہ آیت لکھ دی۔

إِنَّ الْمُنَافِقِينَ فِي الدَّرَكِ الْأَسْفَلِ مِنَ النَّارِ

آگے چل کر تہتر ۷۳ فرقوں والی صحیح حدیث لے آئے۔ کہ ایک گروہ جنتی اور باقی

Click For More Books

سب جہنمی اس کے بعد ذوالخصوصیصرہ تمیمی ابو الخوارج والی حدیث کا حوالہ دے دیا اور آخر میں شاعر مشرق کا مشہور شعر لکھ دیا۔

زبان سے کہہ بھی دیا لا الہٰتو کیا حاصل
دل و نگاہ سے مسلمان نہیں تو کچھ بھی نہیں

کتاب مذکورہ صفحہ ۲۱ تا ۲۶

تابش صاحب کی تابشیں ملاحظہ ہوں۔ کہ جو حضرات ان کے نظریہ کے خلاف ہیں وہ ۱۔ منافق ہیں۔ ۲۔ جہنمی ہیں ۳۔ خارجی ہیں اور ۴۔ محض زبان کی حد تک کے مسلمان ہیں۔ حقیقی مسلمان نہیں اس کے بعد لکھتے ہیں۔

ان تھیدی کلمات کو اپنے دل و دماغ میں محفوظ رکھنیے۔۔ تاکہ آئندہ سطور میں جو کچھ ملاحظہ فرمائیں گے یقیناً نفع مند ہوگا۔ کتاب مذکورہ ص ۲۶

تابش صاحب کی اس جسارت کو دیکھ کر بن کر انصاف پسند حضرات پر کیا گذری ہوگی، ہر شخص اپنے ضمیر میں جھانک کر معلوم کر سکتا ہے۔؟

جواب آن غزل: ان حالات میں تابش صاحب کی کتاب پر تبصرہ کرنا میرا مقصد نہیں ہے۔ البتہ ان کے جواب میں مناظر اسلام حضرت مولانا صوفی محمد سردار احمد نشان دامت برکاتہ نے کتاب کے نام سے گرما گرم جواب لکھا ہے۔ جس میں دیگر حوالہ جات کے علاوہ سیدنا غوث اعظم شیخ عبدالقادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کی کتاب مستطاب تفسیر الجیلانی کا حوالہ بھی درج ہے ملاحظہ ہو اسی کتاب کا صفحہ۔۔۔۔ واضح ہو کہ یہ مبارک تفسیر کی تقسیم میں والی سدرہ شریف کا بڑا کردار ہے۔ جن کے القاب تابش صاحب نے کتاب مذکورہ کے تہدیہ کے صفحہ میں یوں لکھے ہیں۔

Click For More Books

<https://archive.org/details/@zohaibhasanattari>

بسم الله الرحمن الرحيم

تہدیہ

مظہر اخلاق مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم وارث علوم مرتضیٰ رضی اللہ عنہ
شہزادہ غوث الوری رضی اللہ عنہ نقیب الاشراف، مرشد زمان
مرکز امتحان و عرفان، منبع مودت، و محبت، محسن ملت
رہبر شریعت، پیر طریقت،

حضرت الحاج الحافظ پیر سید محمد انور شاہ صاحب گیلانی قادری

دامت برکاتہم العالیہ

زیب سجادہ آستانہ عالیہ قادریہ رزاقیہ سدرہ شریف ضلع ڈیرہ اسماعیل خان اسلامیہ
جمہوریہ پاکستان کی خدمت اقدس میں نہایت ادب و احترام کے ساتھ
- گر قبول آفتد زہے عرو شرف

طالب نگاہ کرم: محمد منشاء تابش قصوری مرید کے ضلع شیخوپورہ جامعہ نظامیہ رضویہ پاکستان

مولانا نشان صاحب چونکہ اہل سنت کے بے باک ترجمان اور سیدنا غوث اعظم رضی اللہ عنہ کے
بڑے فدائی ہیں۔ وہ پوچھتے ہیں اور پوچھنے میں حق بجانب بھی ہیں۔ کہ تفسیر الجیلانی میں سیدنا غوث
اعظم رضی اللہ عنہ نے تمہارے موقف کے برعکس جو کچھ لکھا ہے۔ اگر وہ حق ہے تو انکار کر کے لنگر غوثیہ
گیارہویں خوری کی نمک حرامی کیوں کرتے ہو؟ اور اگر ان کا موقف غلط ہے تو منافقت، جہنمیت،
خارجیت اور محض زبانی کلامی مسلمان ہونے کے فتویٰ سے۔ سیدنا غوث اعظم رضی اللہ عنہ کا
استثلیٰ کیسے کرو گے؟ کس طرح ان درجنوں اساطین اسلام، محدثین عظام، مفسرین کرام، نیز ان
کے علاوہ وہ درجنوں برزگان دین جن کا موقف تمہارے والا نہیں ہے جن کے حوالے درج
نہیں کئے گئے ہیں۔ ان کو فتوائے خارجیت سے کیسے بچاؤ گے؟

Click For More Books

<https://archive.org/details/@zohaibhasanattari>

جو تم نے اپنی کتاب کے نشان منزل میں لگایا ہے۔ نیز حضرت سیدنا غوث الوری رضی اللہ عنہ نے اپنی کتاب غنیۃ الطالبین کتاب الحج کے باب الترویہ میں وہی بات لکھی ہے جس پر تائیش قصوری منافقت، جہنمیت اور ضلالت و گمراہی کے فتوے لگا رہا ہے اور شہزادہ غوث الوری لگوار ہا ہے۔ جب کہ شہزادہ غوث الوری یہ تسلیم کرتے ہیں کہ غنیۃ الطالبین حضرت غوث اعظم رضی اللہ عنہ ہی کی کتاب ہے حضرت نشان ملت پوچھتے ہیں کہ اگر کوئی شخص سرکار غوث اعظم کے خلاف عقیدہ بھی رکھے اور شہزادہ غوث الوری بھی کہلائے یہ کس طرح جائز ہو سکتا ہے؟

جس شہزادہ غوث الوری کی دلجوئی اور خدمت کی خاطر تم نے یہ ساری کاوش کی ہے۔ وہ شہزادہ سیدنا غوث اعظم رضی اللہ عنہ کو اپنا جدِ اعلیٰ مان کر تمہاری جسارت کی تائید کس طرح کریگا۔ لنگر غوثیہ پر پل کر شہزادگی کی بساط کیسے بچھائے گا۔ سرکار غوث اعظم رضی اللہ عنہ پر اتنے گھناؤنے فتوے لگوا کر شہزادہ غوث الوری کس منہ سے کھلوائے گا؟

نشانہ و نشان: مولانا سردار احمد نشان مدظلہ نے منشاء تائیش کی تائیش (گرمی) فتویٰ منافقت، خارجیت، جہنمیت، اور محض زبانی مسلمانی کو سامنے رکھ کر جواب تحریر فرمایا ہے۔ فی الوقت میرا مقصد اس پر کسی قسم کا تبصرہ کرنا نہیں ہے۔ وہ تو اساطین اسلام بشمول سیدنا غوث اعظم رضی اللہ عنہ پر ان لگنے والے فتویٰ پر دکھی دل سے جواب لکھ رہے ہیں۔ ہمیشہ کی طرح ان کے قلم کی تیزی اور گرمی کو محسوس کرتے ہوئے عرض ہے کہ چونکہ تائیش صاحب کی سیرت میں فارسی ادب کی تدریس کا بڑا دخل ہے۔ کسی دور میں ان کو "خوشبوئے سعدی" کہا جاتا تھا۔ اب ان کو "خوشبوئے سعدی" کہنے والے ان سے فتوے منافقت، خارجیت، و جہنمیت پا کر بھی ان کو "خوشبوئے سعدی" کے لقب سے یاد کریں گے۔ یا کوئی اور لقب دیں گے؟ وقت آنے پر پتہ چلے گا۔ البتہ فقیر کے نزدیک یہ "بَدْبُو مُتَرَفِّضِي" بن چکے ہیں حضرت مصلح الدین شیخ سعدی شیرازی رحمۃ اللہ علیہ کے چند اشعار کچھ با ترجمہ اور کچھ بلا ترجمہ حاضر خدمت ہیں۔ حضرت شیخ سعدی علیہ الرحمہ کی بلندی و درجات کی دعائے کے ساتھ پیش

Click For More Books

<https://archive.org/details/@zohaibhasanattari>

﴿ ۱۱ ﴾

خدمت میں۔

خجستہ بہت زیادہ ناز و نیاز کا اور خوش حالانہ

لان بالیچہ کے پآچہ خوش گفت این مثل پیردہ دفعہ و بیفتہ

ستور لکدزن گراں بار بہ

گاؤں کے بابا جی نے یہ کیا خوب مثال بیان فرمائی ہے کہ جو گدھا گھوڑا، نچر و لتان

مارنے کا عادی ہو۔ اس پر بوجھ زیادہ ڈالنا ہی بہتر ہے۔ تاکہ اس کی طبیعت صاف ہو

جائے۔ مگو شہد شیریں و شکر فائق ست

کسے سقمونیا لائق ست

جس شخص کی بیماری کا علاج سقمونیا جیسی کڑوی اور جلاب لانے والی دوائی ہو

اس کے سامنے تم یہ نہ کہو کہ شہد بہت میٹھا ہے اور شکر بہت عمدہ ہے۔

نہ ہرگز شنیدم در عمر خویش

کہ بد مرد رانیتی آمد بہ پیش

میں نے عمر بھر یہ بات نہیں سنی کہ بڑے آدمی (سیدنا غوث اعظم رضی اللہ عنہ ایسی عظیم ہستیوں پر

مناقت و جہنمیت کا فتویٰ لگانے والے) کو نیکی کا منہ دیکھنا نصیب ہوا ہو؟

۸۲۵۵ چہ تخم افگنی برہماں چشم دارا

مزید فرماتے ہیں

باخلاق و نرمی مکن پا درشت

کہ سگ را نمالند چون گربہ پشت

بندہ نے بوستان سعدی سے یہ اشعار چنے ہیں۔ اس میں یقیناً ازیں قسم کے کئی اشعار ہونگے

۔ اگر ضرورت پڑی تو جامعہ نظامیہ رضویہ لاہور کے موجودہ خوشبوئے سعدی سے استفار کرنا

ہماری عین سعادت ہوگی۔

حرف آخر: راقم الحروف بندہ آثم ہر ایسی بات اور حرکت سے اللہ تعالیٰ کی پناہ مانگتا ہے۔ جو کسی

[Click For More Books](#)

<https://archive.org/details/@zohaibhasanattari>

﴿۱۲﴾

بھی انداز میں حضور اکرم ﷺ کی اذیت کا باعث بنے۔
حضور اکرم شفیع معظم ﷺ کی بے پناہ خدمت کرنے والے آپ کے چچا جان کا
معاملہ اللہ تعالیٰ جل شانہ کے حوالے کرتے ہوئے اللہ تعالیٰ ورسول ﷺ اعلم
کہتے ہوئے خاموشی اختیار کرتا ہے اور اسی میں سلامتی ہے۔ کیونکہ ایک طرف صحیح
و صریح احادیث اور کئی آیات بینات کا شان نزول ہے۔ جو کہ مفسرین نے ذکر فرمایا ہے اور
دوسری طرف یہ کیفیت نہیں۔ محض تاویلات ہیں یا خوش عقیدگی کی بنا پر فتوائے منافقت
و خارجیت، اوز جہنمی گروہ ہونے کی وعید۔ خواہ اس کی زد میں شہزادہ غوث الوری
کے جد کریم رحمۃ اللہ علیہ سمیت جو بھی آئے۔ ان سطور کے بعد دعا ہے۔ کہ اللہ تعالیٰ حق کے
لیے ہمارا سینہ کھول دے۔ تاکہ ہم رسول اللہ ﷺ کی بے ادبی اور اذیت سے بھی بچے
ریں اور نجات آخرت کا سامان بھی کر سکیں۔ جملہ آل رسول اللہ ﷺ اور تمام اہل بیت
و جمیع صحابہ کرام علیہم الرضوان کا ادنیٰ غلام اور سیدنا غوث اعظم رضی اللہ عنہ

کاکم ترین خادم

محمد جاوید اکبر قادری

افغان سٹریٹ نزد آستانہ عالیہ حضرت قبلہ صوفی صاحب رحمۃ اللہ علیہ

وکن پورہ لاہور ربیع الاول ۱۴۴۰ھ ہجری بمطابق نومبر ۲۰۱۸ء

Click For More Books

<https://archive.org/details/@zohaibhasanattari>

﴿۱۳﴾

نحمدہ و نصلی علی رسولہ محمد و علی آلہ واصحابہ

اجمعین ۔

اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطن الرجیم

بسم اللہ الرحمن الرحیم

قارئین کرام حدیث مبارکہ ملاحظہ فرمائیں عبارت مندرجہ ذیل ہے۔

وعن ابی ہریرۃ قال: قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم

یکون فی آخر الزمان دجالون کذابون یاتونکم من

الاحادیث بمالم تسمعوا انتم ولا آباؤکم فایاکم وایاہم لا

یضلونکم ولا یفتونکم

(رواہ مسلم و مشکوٰۃ شریف عربی ص ۲۸، باب الاعتصام بالکتاب والسنۃ)

ترجمہ: سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ

علیہ وسلم نے فرمایا آخری زمانہ میں کچھ جھوٹے اور دھوکے باز لوگ ہوں

گے جو تمہیں ایسی باتیں کہیں گے جو نہ تم اور تمہارے باپ دادا نے سنی

ہوں گی۔ ان لوگوں سے بچنا، کہیں تم کو گمراہ نہ کر دیں اور تم کو فتنہ میں نہ

ڈال دیں۔“

اس حدیث کی شرح شاہ عبدالحق محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ کی زبانی سنئے:

المراد بعدم السماع المذکور عدم ثبوتها فی الدین

و کونہا بہتاناً و افتراءً فیہ۔ (لغات ج ص ۲۲۱)

نہ سننے سے مراد ہے کہ ان کی باتوں کا دین میں کوئی ثبوت نہ ہوگا وہ صرف

بہتان و افتراء ہوگا۔ ایسے ہی آج کل کچھ لوگ ایسی باتیں نقل کرتے ہیں جن کا دین

Click For More Books

<https://archive.org/details/@zohaibhasanattari>

﴿۱۳﴾

تین سے دور کا بھی تعلق نہیں ہے۔ ایمان ابی طالب کا عقیدہ رافضیوں کا خود ساختہ ہے۔ قرآن و حدیث ائمہ تفسیر، محدثین، حفاظ احادیث، شارحین احادیث و دیگر ائمہ کرام علیہم الرضوان میں سے کسی ایک کا بھی عقیدہ نہیں۔ اس دور میں سید الکاذبین منشاء قصوری آف مرید کے ہے۔ ہم دلائل شرعیہ سے مرتبہ رسالہ ایمان ابو طالب کا اصلی چہرہ لوگوں کے سامنے پیش کریں گے کہ حوالہ جات نقل کرنے میں کتنا کذب بیانی سے کام لیا ہے اور اس کا رافضی ہونا بھی ثابت کریں گے۔

قرآن کریم کی آیت نمبر: ”إِنَّكَ لَا تَهْدِي مَنْ أَحْبَبْتَ وَلَكِنَّ اللَّهَ يَهْدِي مَنْ يَشَاءُ“ بے شک نہیں کہ تم جسے اپنی طرف سے چاہو ہدایت کرو وہاں! اللہ ہدایت فرماتا ہے جسے چاہے۔ (کنز الایمان) اسی آیت مبارکہ کا شان نزول سیدنا و مولانا نعیم الدین مراد آبادی فرماتے ہیں۔ عبارت یوں ہے: شان نزول مسلم شریف میں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ یہ آیت ابو طالب کے حق میں نازل ہوئی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے ان کی موت کے وقت فرمایا: اے چچا! کہو: لا الہ الا اللہ میں تمہارے لئے روز قیامت شاہد ہوں گا۔ انہوں نے کہا کہ اگر مجھے قریش کے عار دینے کا اندیشہ نہ ہوتا تو میں ضرور ایمان لا کر تمہاری آنکھ ٹھنڈی کرتا، اس کے بعد انہوں نے یہ شعر پڑھے:

ولقد علمت بان دین محمد من خیرا دیان البریہ دینا لولا الملامۃ او حذارُ مسبة لوجودتني سمحا بذاک مبینا یعنی میں یقین سے جانتا ہوں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا دین تمام دینوں سے بہتر ہے اگر ملامت و بدگوئی کا اندیشہ نہ ہوتا (جہان کے) تو میں نہایت صفاگی کے ساتھ اس دین کو قبول کرتا، اس کے بعد ابو طالب کا انتقال ہو گیا اس پر یہ آیت کریمہ نازل ہوئی۔ مترجم قرآن کریم اعلیٰ حضرت علیہ الرحمۃ حاشیہ مولانا سید نعیم الدین مراد آبادی ص ۶۲۶ طبع تاج کمپنی لاہور

Click For More Books

(۱۵)

سیدنا پیمانہ عند مذاہبہ رضی اللہ عنہم ویا ربہ ویدعہ حلسہ رضی اللہ عنہ
(بہان اذکر ان کرام خط کشیدہ عبارت پڑھ کر فیصلہ فرمائیں کہ وقت موت ابوطالب نے
کلمہ پڑھے سے انکار کیا اور انتقال کر گیا اور اسلام قبول نہ کیا۔ اگر مسلمان ہوتا تو مولانا
سید نعیم الدین مراد آبادی اس پر رضی اللہ عنہ کا جملہ ضرور نقل فرماتے۔

اب مفسرین اہل سنت کے اقوال نقل کئے جاتے ہیں۔

قال الزجاج اجمع المفسرون علی انها نزلت فی ابی طالب۔

(تفسیر خازن علی مدارک ص ۴۳۶، جلد ۳ زیر آیت سورۃ القصص ص ۴۳۶، جلد سوئم)

امام جلال الدین سیوطی رحمۃ اللہ علیہ نے بھی یوں لکھا ہے۔

(تفسیر جلالین ص ۳۹۲ طبع بیروت)

اور سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ والی حدیث جو مسلم شریف میں نقل ہے کا حوالہ دیا

کہ یہ آیت مبارکہ ابوطالب کے حق میں نازل ہوئی ہے۔ آگے لکھتے ہیں: اخرج

النسائی و ابن عساکر فی تاریخ دمشق بسند جید عن ابی سعد بن رافع

قال سالت ابن عمر عن ہذہ الایۃ (انک لاتہدی من اجبت افی ابی

جہل و ابی طالب قال نعم۔ ترجمہ: امام نسائی نے اور ابن عساکر نے تاریخ

دمشق میں جید سند سے حضرت سعد بن رافع سے روایت کیا کہ انہوں نے ابن عمر رضی

اللہ عنہ سے اس آیت کے بارے میں پوچھا: کیا ابو جہل اور ابوطالب کے بارے میں

آیت نازل ہوئی۔ تو ابن عمر رضی اللہ عنہما نے فرمایا: ہاں!

امام النحو علامہ زحشری بھی یوں ہی فرماتے ہیں۔ عبارت یوں ہے:

قال الزجاج اجمع المفسرون انها نزلت فی ابی طالب

(تفسیر کشاف ج ۳ ص ۴۴۲)

قاضی ثناء اللہ پانی پتی رحمۃ اللہ علیہ حدیث مرفوعہ نقل کر کے لکھتے ہیں۔

Click For More Books

<https://archive.org/details/@zohaibhasanattari>

﴿۱۶﴾

اخرج مسلم وغيره عن ابى هريرة رضى الله عنه قال قال رسول
الله صلى الله عليه وسلم لعنه ابى طالب (تفسير مظہری عربی ج ۷، ص ۷۳ طبع انڈیا)
تفسیر ابن عباس والے بھی یوں ہی لکھتے ہیں: انك يا محمد (لاتهدى)
لاترشد من احببت ايما نه يعنى ابى طالب

(تفسیر ابن عباس عربی ص ۳۹۲، اردو ابن عباس ج ۲، ص ۲۱۶)

مفتی عبدالعزیز مزنگ لاہور والے ترجمہ میں لکھتے ہیں عبارت یوں ہے:
رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم ابوطالب کا بھلا چاہتے تھے تب یہ آیت نازل ہوئی
کہ اس کی قسمت میں اسلام نہیں۔ ابوبکر وغیرہ مشرف باسلام ہوئے کہ ان کی تقدیر
میں تھا۔

علامہ آلوسی بغدادی رحمۃ اللہ علیہ حدیث مرفوع سیدنا ابوہریرۃ رضی اللہ عنہ کی
پوری حدیث نقل کر کے فرماتے ہیں کہ یہ آیت مبارکہ ابوطالب کے حق میں نازل
ہوئی۔ (روح المعانی ج ۲۰، ص ۹۶)

قال الزجاج اجمع المسلمون ان هذه الاية نزلت في ابى طالب
(مراج لیبید ج ۲، ص ۱۳۶)

ملا علی القاری رحمۃ اللہ علیہ نے بھی جمہور کا مذہب ثابت کیا ہے۔

والجہور علی الاية نزلت في ابى طالب

(انوار القرآن ج ۳، ص ۹۵، طبع پاکستان)

حافظ الحدیث امام جلال الدین سیوطی رحمۃ اللہ علیہ نے سات احادیث مبارکہ
اسی آیت کے متعلق نقل کی ہیں۔ نمبر ۱: عن ابى هريرة رضى الله عنه قال قال رسول الله
صلى الله عليه وسلم لعنه ابى طالب (تفسیر ابن عباس عربی ص ۳۹۲، اردو ابن عباس ج ۲، ص ۲۱۶)
نمبر ۲: عن ابن عباس رضى الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لعنه ابى طالب
نمبر ۳: عن ابن عباس رضى الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لعنه ابى طالب
نمبر ۴: عن ابن عباس رضى الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لعنه ابى طالب
نمبر ۵: عن ابن عباس رضى الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لعنه ابى طالب
نمبر ۶: عن قتادة رضى الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لعنه ابى طالب
نمبر ۷: عن ابن عباس رضى الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لعنه ابى طالب

Click For More Books

اللہ عنہم (تفسیر الدر المنثور عربی جز ۵ ص ۱۳۳ طبع ایران)

سات احادیث مبارکہ اس بات پر شاہد ہیں کہ ابوطالب نے سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمانے کے باوجود کلمہ نہیں پڑھا یعنی اسلام قبول نہیں کیا۔

مذکورہ احادیث کے تمام راوی ثقہ ہیں تقریب التہذیب، تہذیب التہذیب لابن حجر رحمۃ اللہ علیہ بخاری و مسلم کی منقول شدہ احادیث میں اکثر راوی سعید بن المسیب بن حزن رضی اللہ عنہ صحابی ہیں۔ امام جلال الدین سیوطی رحمۃ اللہ علیہ نے ثقہ راویوں سے حدیثیں روایت کی ہیں۔ مذکورہ بالا عبارات سے ثابت ہو گیا کہ ابوطالب کے مسلمان نہ ہونے پر اہل اسلام مفسرین کا اجماع ہے اور نص قرآنی دال ہے۔ نص قرآنی کے خلاف کسی فرد کی بھی دلیل حجت نہیں۔ مفسر قرآن قرطبی رحمۃ اللہ علیہ کا فیصلہ پڑھیے: فالایة هذا ناسخة لاستغفار النبي صلى الله عليه وسلم لعنه انك لاتهدى و زیر آیت: مَا كَانَ لِلنَّبِيِّ وَالَّذِينَ آمَنُوا تَوْبَةٌ (آیت نمبر ۱۱۳، ج ۸ ص ۲۳۸، ج ۸ ص ۲۵۰) مذکورہ آیت ابوطالب کے لئے استغفار کرنے کی ممانعت کی دلیل ہے۔

اسی آیت کے متعلق صاحب جامع البیان زیر آیت مَا كَانَ لِلنَّبِيِّ وَالَّذِينَ آمَنُوا (توبہ ۱۱۳ تفسیر جامع البیان صفحہ ۵۲-۵۵ ج ۷ سند احادیث اکثر لکھی ہیں۔ ج ۷ صفحہ ۶۰ طبع بیروت)۔

اجمع المفسرون ان هذه الآية نزلت في ابي طالب آگے عن علی رضی اللہ عنہ موت ابي و امی حدیث نقل ہے۔ تفسیر ثعالبی ج ۳ صفحہ ۲۳۱۔

محدث و مفسر ابن الجوزی علیہ الرحمۃ فرماتے ہیں زیر آیت: مَا كَانَ لِلنَّبِيِّ

والذين امنوا عن سيدنا ابن المسيب ج ۳ صفحہ ۳۸۳

Click For More Books

﴿۱۸﴾

تفسیر مقاتل بن سلیمان نے بھی مات علی الکفر لکھا ہے۔ ج ۲ صفحہ ۷۴، فتح
البیان ج ۳ صفحہ ۱۸۶۔

موت ابی طالب کے متعلق ”مات علی الکفر“ کی عبارت تفسیر ارشاد العقل
بر حاشیہ ابوسعود جلد ۳ صفحہ ۴۴۹، وایضاً تفسیر عبدالرزاق ما کان للنبی والذین امنوا
نزلت فی ابی طالب، جمل علی الجلالین ج ۲ صفحہ ۳۳۲، الصاوی علی الجلالین
حدیث ان عمک الضال نقل ہے۔ عن علی رضی اللہ عنہ ج ۲ صفحہ ۱۸۳،
مذکورہ حدیث ان عمک الضال عن سعید رضی اللہ عنہ تفسیر ابن ابی حاتم ج ۵
صفحہ ۱۴۱۔

کتب احادیث وفقہ ملاحظہ فرمائیں، حدیث ابی طالب جو کہ نقل ہے۔

امام محمد علیہ الرحمۃ یوں لکھتے ہیں: عن علی رضی اللہ عنہ ان عمک
الضال الحدیث سیر الکبیر ص ۱۵۳، سنن سعید بن منصور ج ۵ صفحہ ۲۸۱، الاوسط
نیشاپوری ج ۵ ص ۳۲۳، صفحہ ۳۰۴، تفسیر قشیری صفحہ ۱۸۱، المہبوط سرخسی ج ۲ صفحہ ۵۵،
تاریخ مدینہ ۶۶ جز، صفحہ ۳۳۲، بدائع الصنائع، ج ۱، صفحہ ۳۰۳، شرح نہج البدعہ ابن
الحدید شیعہ، ۱۴ جز، صفحہ ۳۸، المجموع للنووی ج ۵، صفحہ ۲۳۷، تہذیب الکمال ۲۹ جز،
صفحہ ۲۵۸، تبیین الحقائق ج ۱، صفحہ ۲۴۴، البدر المنیر ج ۵، صفحہ ۲۳۷، الاصابہ ج ۷، صفحہ
۲۳۹، جامع الحدیث للسیوطی، ۱۶ جز، صفحہ ۳۵۱، ۱۷ جز، صفحہ ۲۸۳، سبل الہدیٰ ج ۲، صفحہ
۴۳۱، کنز العمال ۱۴ جز، صفحہ ۱۶، مندرجہ بالا کتب میں سیدنا علی رضی اللہ عنہ والی روایت
ان عمک الضال نقل ہے۔

ابو طالب کے متعلق لکھتا ہے کہ اس نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے بڑی ہمدردی
کی اور نکاح سیدہ خدیجہ رضی اللہ عنہا کا پڑھایا۔ قصیدہ بھی لکھا، اس سے ایمان ثابت
ہوتا ہے۔ ہرگز نہیں۔ اعلیٰ حضرت مجدد دین و ملت الشاہ احمد رضا فاضل بریلوی رحمۃ

Click For More Books

اللہ علیہ نے ان تمام باتوں کا رد کیا ہے۔ عبارت مندرجہ ذیل ہے:

وہ گورے رنگ جن کے روئے روغن سے مینہ برستا ہے

قییموں کے جائے پناہ بیواؤں کے نگہبان

صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم محمد بن اسحاق تابعی صاحب سیر و مغازی نے قصیدہ بتماھا نقل کیا جس میں ایک سو دس بیتیں مدح جلیل و لغت منبع منبع پر مشتمل ہیں۔ شیخ محقق مولانا عبدالحق محدث دہلوی قدس سرہ شرح صراط مستقیم میں اس قصیدے کی نسبت فرماتے ہیں۔ دلالت دارد بر کمال محبت و نہایت معرفت نبوت او انتہی مگر مجرد ان امور سے ایمان ثابت نہیں ہوتا۔ کاش یہ افعال و اقوال ان سے حالت اسلام میں صادر ہوتے تو سیدنا عباس بلکہ سیدنا حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بھی افضل قرار پاتے۔ آگے لکھتے ہیں: آیات قرآنیہ و احادیث صحیحہ متواترہ سے ابوطالب کا کفر پر مرنا اور دم واپس ایمان لانے سے انکار کرنا اور عاقبت کار اصحاب نار سے ہونا ایسے روشن ثبوت سے ثابت جس میں کسی سنی کو مجال دم زدن نہیں، ہم یہاں کلام کو سات فصل پر منقسم کریں گے۔ (رسائل رضویہ ج ۲، ص ۳۱۰، ۳۱۱)

مذکورہ نقل کردہ عبارت سے صاف ظاہر ہو گیا ابوطالب نے کلمہ نہیں پڑھا اور یہی عقیدہ تمام اہل سنت کا ہے اور تائبش نے جو صفحہ ۸۱، ۸۲ میں عبارت نقل کی اس کی بددیانتی کا پتہ چل گیا، پوری عبارت نقل کرتا تو بددیانتی کا کیسے پتہ چلتا۔ ماقبل تو لکھ دیا اور مابعد شیر مادر سمجھ کر پی گیا۔ عبارت صرف بیواؤں کے نگہبان تک لکھی، اگلی عبارت ہضم کر گیا۔

جس عبارت میں ابوطالب کا کفر پر مرنا لکھا ہے۔ رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے ابوطالب کی ہمدردیاں، نکاح اور قصیدہ کا جواب ہو گیا، آگے لفظ ضال کا معنی غلط کیا۔ ص ۳۰ محبت میں خود رفتہ قرآن کریم سورۃ النضحیٰ کا لفظ ضال اور سیدنا یوسف علیہ

Click For More Books

﴿۲۰﴾

السلام پر اطلاق ضال کا معنی محبت ہی بنتا ہے۔ لیکن ان عمک الضال کا ترجمہ غلط کیا ہے۔ اس بیچارے کو اتنا بھی علم نہیں کہ ضال کی اضافت جب نبی اللہ کی طرف ہو تو معنی محبت بنے گا اور غیر نبی پر ضال معنی گمراہ ہی ہوگا۔ لیجئے ضال کا معنی اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ علیہ کی زبانی سنئے حوالہ مندرجہ ذیل ہے۔

حدیث نہم: حضرت امیر المؤمنین مولیٰ علی کرم اللہ تعالیٰ وجہہ الکریم یعنی میں نے حضور اقدس سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کی: یا رسول اللہ! حضور کا چچا بڑھا گمراہ مر گیا فرمایا جا سے دبا آ۔ (ج ۲، ص ۳۲۱، رسائل رضویہ) یہ حدیث متعدد کتب میں نقل ہے۔

خط کشیدہ عبارت پڑھ کر قارئین خود فیصلہ کریں کہ مرتب نے ترجمہ کرنے میں کتنا جھوٹ بولا۔ یہ حدیث امام شافعی و امام احمد و امام اسحاق بن راہویہ و ابوداؤد و طیالسی اپنی مسانید اور طبقات ابن سعد اور مصنف ابن ابی شیبہ اور ابوداؤد و نسائی سنن اور ابن خزمیہ اپنی صحیح اور ابن الجارود و منشی اور مروزی کتاب الجمانز اور بزار و ابویعلیٰ مسانید اور بیہقی سنن میں بطریق عدیدہ سیدنا علی رضی اللہ عنہ سے روایت ہے۔

اس صحیح حدیث پاک سے مولا علی رضی اللہ عنہ کا عقیدہ ثابت ہو گیا کہ ابوطالب کفر پر مرا، ہم تابش سے پوچھتے ہیں کہ جو شخص ایمان ابی طالب کا قائل نہیں وہ خارجی ہے۔ تو آپ کے نزدیک مولا علی رضی اللہ عنہ بھی نعوذ باللہ خارجی و منافق ہوئے (تابش نے لکھا ہے: ابوطالب نے دین اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تصدیق کی یہ عبارت ایمان ثابت نہیں کرتی، ملا علی القاری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں: قال ابو جہل ان محمدا لصادق ما کذب محمدا قط (شرح شفا ج ۱ ص ۷۹)

ابو جہل نے بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تصدیق کی، پھر آپ ابو جہل کو سیدنا اور رضی اللہ عنہ لکھا کریں، عقل ہوتی تو رافضی نہ بنتے۔ آگے چل کر ملا علی القاری رحمۃ اللہ

Click For More Books

<https://archive.org/details/@zohaibhasanattari>

علیہ لکھتے ہیں۔ عبارت یوں ہے: طالبات کافرا (شرح شفا ج ۱ ص ۷۵۲، طبع بیروت)
ابوطالب کے متعلق ایک اور دلیل ملاحظہ فرمائیں۔ ابوطالب لم یصح
اسلامہ (شرح شفا ج ۱ ص ۶۰۵)

تائید مزید: عبارت یوں ہے: ورد فی حدیث ان ابا طالب اسلم و
تلفظ بکلمة الشهادة وهو فی مرض الموت الا انه منکر۔ (رسالہ ایمان
ابویہ صلی اللہ علیہ وسلم جز ۲، ص ۱۷، ملا علی القاری رحمۃ اللہ علیہ نے ابوطالب کا مسلمان
ہونا اور کلمہ شہادہ پڑھنا وقت موت اس روایت کو منکر قرار دیا ہے کہ اس سے حجت پکڑنا
نہیں جائز)

سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کا عقیدہ: روی عن ابی بکر رضی اللہ عنہ
انه قال للنبی صلی اللہ علیہ وسلم والذی بعثک بالحق لاسلام ابی
طالب کان اقر لعینی من اسلامه یعنی اباہ ابا قحافة و ذالک ان اسلام
ابی طالب اقر لعینک۔ (شفا شریف ج ۲، ص ۱۷، طبع بیروت)

ترجمہ: سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ آپ نے نبی صلی اللہ
علیہ وسلم کی خدمت میں عرض کیا قسم ہے اس ذات کی جس نے آپ کو حق کے ساتھ
بھیجا! ابوطالب اگر اسلام لے آتا تو میرے لئے زیادہ خوشی کا باعث تھا بہ نسبت
میرے باپ ابو قحافہ کے اسلام لانے سے۔

ہم تابش سے پوچھتے ہیں کہ کیا صدیق اکبر یا رغار رضی اللہ عنہ بھی نعوذ باللہ آپ
کے نزدیک خارجی ہوئے۔ ”اذا فات الحیاء فاصنع ما شئت“۔ سیدنا ابوبکر
صدیق رضی اللہ عنہ کا بھی وہی عقیدہ ہے جو ہم اہل سنت و جماعت حنفی بریلویوں کا
ہے۔ ایمان ابی طالب کا عقیدہ پوری امت محمدیہ علی صاحبہا الصلوٰۃ والسلام کے خلاف
ہے۔ کتابچہ تو لکھ دیا لیکن تابش سے ابوطالب کے ایمان پر کوئی نص قرآنی اور حدیث

Click For More Books

﴿۲۲﴾

متواترہ صحیحہ نقل کرنے کی ہمت نہیں ہوئی ”فَإِنْ لَمْ تَفْعَلُوا وَلَنْ تَفْعَلُوا“
اہل بیت اطہار اور صحابہ کرام علیہم الرضوان میں سے کوئی بھی ایمان ابو طالب کا
قائل نہیں۔ تاہم مر تو جائے گا مگر ایمان ابو طالب پر ایک صحیح روایت نہیں دکھائی گئی۔
ہم احادیث مبارکہ اور فقہائے کرام علیہم الرضوان کی تصریحات نقل کرتے
ہیں۔

امام محمد شیبانی رحمۃ اللہ علیہ کا عقیدہ: روی ان علیا جاء الى النبي صلى الله
عليه وسلم حين مات ابو طالب فقال ان عمك الضال قد توفي فقال
اذهب فاغسله و كفنه (رواه السير الكبير ج ۱ ص ۱۵۳، طبع بیروت)

حدیث نمبر ۲: حدثنا الحمیدی قال ثنا سفیان قال عبد الملك بن
عمیر قال سمعت عبید اللہ بن الحارث بن نوفل يقول سمعت عباس
بن عبدالمطلب يقول قلت يا رسول الله ان ابا طالب كان يحوطك و
ينصرك فهل نفعه ذلك فقال نعم وجدته في غمرات من النار فاخرجته
الى ضحضاح (حدیث نمبر ۱۳۶۰ الجزء الخامس مسند الحمیدی ج ۱ ص ۲۹۱ طبع مدینہ و
ایضاً فی جامع الاصول ج ۲ ص ۱۱۰، ۸۰ ازیر آیت مَا كَانَ لِلنَّبِيِّ وَالَّذِينَ آمَنُوا
، فیض القدر شرح جامع الصغیر ج ۳ ص ۸۹، ان عمك الشيخ الضال الحديث
(تفسیر کبیر جز ۲۵، ص ۲ طبع تہران عبارت میں اکرہ کا جملہ نقل ہے۔ تفسیر شمر قندی ج ۲
ص ۶۱۳ و ایضاً ج ۲ ص ۲۸۸، فتح القدر شوکانی ج ۵ ص ۱۹۵، کفرابی طالب پر دلالت
کردہ تمام احادیث نقل ہیں۔ طبقات ابن سعد ج ۱ ص ۸۱، ۸۲، تفسیر قرطبی ج ۸ ص
۲۲۸، ۲۵۰، زیر آیت مَا كَانَ لِلنَّبِيِّ تفسیر جامع البیان طبری ج ۷ ص ۵۳، ۵۵، ج ۷،
ص ۱۶۰ کثر احادیث نقل ہیں۔

اجمع المفسرين ان هذه الاية نزلت في ابي طالب اور موت والی

Click For More Books

﴿۲۳﴾

حدیث بھی نقل ہے۔ (تفسیر ثعالبی ج ۳ ص ۲۳۱، زادالمسیر ابن جوزی ج ۳ ص ۳۸۳، عن سعید بن المسیب، تفسیر بیضاوی ص ۲۶۹ مکمل تفسیر مقاتل بن سلیمان ج ۲ ص ۷۲، مات علی الکفر، تفسیر فتح البیان ج ۳ ص ۱۸۶، تفسیر ارشاد العقل ج ۳ ص ۲۲۹، تفسیر عبدالرزاق پوری سند عن علی رضی اللہ عنہ ج ۲ ص ۳۲۲، الصاوی علی الجلالین ج ۱ ص ۱۸۳، تفسیر ابن ابی حاتم عن سعید بن المسیب ج ۵ ص ۱۴۱ ان کتب تفسیر اور کتب احادیث میں روز روشن کی طرح یہ مسئلہ واضح ہے۔

(فقہائے کرام علیہم الرضوان کی تصریحات مندرجہ ذیل ہیں)

’امام اعظم رضی اللہ عنہ کا عقیدہ پڑھیے: محمد عن یعقوب عن ابی حنیفة کافر مات وله ولی مسلم فانه يغسلها ويتبعه ويدفنه كذلك امر علی رضی اللہ عنہ (شرح الجامع الصغیر ص ۱۹۵ مکمل) امام محمد یعقوب سے وہ ابوحنیفہ سے روایت کرتے ہیں۔ اگر کافر مر جائے اور اس کا ولی کوئی مسلمان ہو تو وہ اسے غسل دے اور میت کے ساتھ جائے اور دفن کر دے۔ آگے شارح نے سیدنا علی رضی اللہ عنہ کی حدیث ’ان عمک الشیخ الضال‘ کی طرف اشارہ کیا ہے جو کہ سنن بیہقی میں سنداً نقل ہے۔ (سنن ج ۳ ص ۳۹۸، المبسوط سرحی ج ۲ ص ۵۵ پر نقل ہے۔ مذکورہ عبارت بعینہ ہدایہ ج ۱ ص ۱۶۳، تبیین الحقائق شرح کنز ج ۱ ص ۲۴۲، البحر الرائق ج ۲ ص ۳۳۲، منقول از کاشف کید الثعلب ’ما کان للنبی‘ زیر آیت حاشیہ طحاوی علی مراقی الفلاح ص ۳۳۰، نور الہدایہ ج ۱ ص ۱۴۶، نصب الرایۃ ج ۱ ص ۲۸۱، ۲۸۲، فتح القدر ج ۳ ص ۸۳، شرح النقایہ ملا علی القاری رحمۃ اللہ علیہ ج ۱ ص ۴۴۰)

علامہ آلوسی بغدادی کا فیصلہ پڑھیے عبارت یہ ہے: مَا كَانَ لِلنَّبِيِّ وَالَّذِينَ

آمَنُوا زِيْرًا آيَةٌ أَنَّهُ لَافَائِدَةٌ فِي طَلْبِ الْمَغْفِرَةِ لِلْكَافِرِ وَالْآيَةَ عَلَى الصَّحِيحِ نَزَلَتْ فِي أَبِي طَالِبٍ - (روح المعانی جز ۱ ص ۳۲) لے شک کافر کے لئے

[Click For More Books](#)

﴿۲۳﴾

دعائے بخشش مانگنا کوئی فائدہ نہیں اور یہ آیت ابوطالب کے بارے میں نازل ہوئی۔
چند سطور آگے نقل ہے۔ والایة علی هذا دلیل علی ان اباطالب مات کافرا
وهو المعروف من مذهب اهل السنة والجماعت . (روح المعانی ج ۱۱ ص ۳۳،
طبع پاکستان) مَا كَانَ لِلنَّبِيِّ وَالَّذِينَ آمَنُوا اس بات پر حجت ہے کہ ابوطالب کی موت
کفر پر ہوئی اور صحیح مذہب اہل السنۃ والجماعۃ یہی ہے۔ علامہ آلوسی رحمۃ اللہ علیہ نے
فیصلہ فرما دیا ہے کہ ابوطالب کی موت کفر پر ہوئی۔ ایمان ابوطالب شیعوں کا مذہب
ہے، اہل سنت کا نہیں۔ شرح فقہ اکبر ملا علی القاری رحمۃ اللہ علیہ کا عقیدہ مندرجہ ذیل
عبارت پڑھئے۔

وابوطالب مات کافرا (شرح فقہ اکبر ص ۴۷)

ترجمہ فارسی: ابوطالب عم رسول فوت شد کافر۔

مَا كَانَ لِلنَّبِيِّ وَالَّذِينَ آمَنُوا . إِنَّكَ لَا تَهْدِي مَنْ أَحْبَبْتَ الاية نزل
فی ابی طالب (ارشاد الساری شرح صحیح بخاری ج ۵ ص ۵۵۸، مسند ابی عوانہ ج ۱ ص
۱۳، عن سعید بن المسیب والیضاج ص ۹۷، طبع بیروت امام ابن حجر عسقلانی کا فرمان
بھی اسی طرح ہے۔

حافظ ابن کثیر نے محبت و ہمدردی قصیدہ و نکاح خوانی کا نفیس جواب دیا ہے۔

عبارت یوں ہے:

یحبہ حبا شدیدا طبعیا لا شرعیاً . (تفسیر ابن کثیر عربی ج ۳ ص ۲۹۲ طبع بیروت)

ابوطالب حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت شدید طبعی طور سے کرتا تھا یعنی رشتے
داری کی بنا پر شرعی طور پر نہ تھی۔ جب اس کی موت کا وقت قریب آیا تو نبی صلی اللہ علیہ
وسلم نے اسے اسلام میں آنے کی دعوت دی اور ایمان لانے کی رغبت دلائی، لیکن
تقدیر کا لکھا اور اللہ تعالیٰ کا چاہا غالب آیا یہ ہاتھوں سے پھسل گیا اور اپنے کفر پر اڑا رہا۔

Click For More Books

﴿۲۵﴾

نبی صلی اللہ علیہ وسلم کلمہ پڑھنے کا اصرار کرتے رہے۔ ابوطالب نے ہر بار انکار کیا۔ یہ آیت مبارک اس کے بارے میں نازل ہوئی۔ ابن کثیر عربی کی پوری عبارت پڑھیں اور خود فیصلہ کریں۔ تابش نے بلا وجہ کثیر صفحات سیاہ کر مارے۔ کھودا پہاڑ تو نکلا چوہا۔ چند سطور آگے عبارت نقل ہے رواہ الامام احمد عن یحییٰ بن سعید القطان عن یزید بن کیسان حدثنی ابو حازم عن ابی ہریرۃ فذکرہ بنحوہ و ہکذا قال ابن عباس و ابن عمرو و مجاہد و الشعبي و قتادۃ انها نزلت فی ابی طالب حین عرض علیہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان یقول لا الہ الا اللہ فابی علیہ ذالک۔ (مترجم ابن کثیر ج ۳ ص ۱۳۷)

امام احمد رضی اللہ عنہ یحییٰ بن سعید قطان سے وہ یزید بن کیسان سے انہوں نے ابو حازم نے سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت کی اور اسی طرح روایت کا ذکر کیا کہ یہ ابن عباس، ابن عمرو مجاہد و الشعبي اور قتادہ نے کہا بے شک یہ آیت ابوطالب کے حق میں نازل ہوئی۔ جب کہ ابوطالب پر کلمہ لا الہ الا اللہ سرکار نے پیش کیا کہ وہ کہے تو ابوطالب نے صاف انکار کر دیا۔ تمام احادیث میں ابی کا جملہ نقل ہے جو اس بات پر دلالت کرتا ہے کہ ابوطالب نے کلمہ نہیں پڑھا۔ یہ اکثر صحابہ اور تابعین کی روایت ہے۔ معلوم ہوا کہ صحابہ اور تابعین رضوان اللہ علیہم اجمعین کا عقیدہ ہے۔ ابوطالب مسلمان نہیں تھا۔

شرح مسلم الثبوت کی عبارت بھی پڑھئے، عبارت یوں ہے:

فان احادیث کفرہ شہیرۃ وقد نزل فی حق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فی شان عمہ ابی طالب (انک لاتہدی من اجبت) القصص کما فی صحیح مسلم و سنن الترمذی وقد ثبت والخبر الصحیح عن الامام الباقر کرم اللہ وجہہ و وجوہ آباءہ الکرام ان رسول اللہ صلی

Click For More Books

﴿۲۶﴾

اللہ علیہ وسلم ورث طالبا و عقیلا اباهما ولم یورث علیا و جعفر ا۔
(فواتح الرحموت ج ۱ ص ۱۲۳، رسائل رضویہ ج ۲ ص ۴۲۳ پر بھی ہے۔ ترجمہ کفر
ابوطالب کی حدیثیں مشہور ہیں، پھر اس کے ثبوت میں آیت اولی کا اترنا اور حدیث دہم
کفر ابی طالب کی وجہ سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا علی و جعفر کو ترک نہ دلانا بیان فرمایا۔
امام محمد باقر رضی اللہ عنہ اور ان ابائے کرام سے ثابت ہے۔

شیخ عبدالحق محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں۔ حدیث صحیح اثبات کردہ
است برائے ابوطالب کفر را۔ مجدالدین فیروز آبادی سفر السعادة میں فرماتے ہیں۔
چوں عم نبی صلی اللہ علیہ وسلم ابوطالب بیمار شد باوجود آنکہ مشرک بود اور اعیادت
فرمود و دعوت اسلام کرد ابوطالب قبول نہ کرد۔ صاحب روضۃ الاحباب کی عبارت
یوں ہے: نیز اخبار موت ابوطالب بر کفر آوردہ۔ منقول از رسائل رضویہ ج ۲ ص ۴۳۵
طبع پاکستان امام قسطلانی نے کفر کی اقسام نقل کی ہیں۔ ایک کافر وہ ہے جو قلب سے
عارف زبان سے معترف ہو مگر اذعان نہ لائے جیسے ابوطالب سے مروی ہے۔

(رسائل رضویہ ج ۲ ص ۴۳۴)

ملا علی القاری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں۔ ابوطالب لم یومن عند اهل
السنت، اہل سنت کے نزدیک ابوطالب مسلمان نہیں۔ (رسائل رضویہ ج ۲ ص
۴۳۱، مرقاة شرح مشکوٰۃ باب اشراط الساعة والیضا شاہ عبدالحق محدث دہلوی رحمۃ اللہ
علیہ فرماتے ہیں: مشائخ حدیث و علمائے سنت بریں اند کہ ایمان ابوطالب ثبوت نہ
پذیر رفتہ، شرح سفر السعادت، ص ۲۴۹)

شرح مقاصد و شرح تحریر پھر رد المحتار حاشیہ در مختار باب المرتدین میں ہے۔
المصر علی عدم الاقرار مع مطالبة کافر وفاقا لکون ذلك من
امارات عدم التصدیق ولهذا اطبقوا علی کفر ابی طالب۔ ترجمہ: جس

Click For More Books

﴿۲۷﴾

سے اقرار اسلام کا مطالبہ کیا جائے اور وہ اقرار نہ کرنے پر اصرار رکھے، بالاتفاق کافر ہے کہ یہ دل میں تصدیق نہ ہونے کی علامت ہے۔ اسی واسطے تمام علماء نے کفر ابی طالب پر اجماع کیا ہے۔ (رسائل رضویہ ج ۲ ص ۴۴۰) اسی صفحہ پر مولانا علی قاری شرح شفا شریف میں فرماتے ہیں۔ اذا امر بها و امتنع و ابى عنها کابى طالب فهو کافر بالاجماع یعنی یہ اختلاف اس صورت میں ہے کہ اس سے اقرار طلب نہ کیا گیا ہو اور اگر بعد طلب باز رہے جب تو بالا جماع کافر ہے۔ ابو طالب کا واقعہ اس پر دلیل ہے۔ مرقاة شرح مشکوٰۃ میں ہے۔ ابو طالب لم یؤمن عند اهل السنة اهل سنت کے نزدیک ابو طالب مسلمان نہیں، امام عبدالباقی زرقانی شرح المواہب ابن اسحاق نقل کرتے ہیں۔ بهذا احتج الرافضة و من تبعهم على اسلامه

(رسائل رضویہ ج ۲ ص ۴۴۰)

اصابہ میں ہے: ذکر جمع من الرافضة انه مات مسلما قال ابن عساکر فی صدر ترجمة قيل انه اسلام ولا یصح اسلامه (رافضیوں کا گروہ کہتا ہے کہ ابو طالب مسلمان مرے یہ صحیح نہیں مذکورہ عبارت سے صاف معلوم ہو گیا کہ ایمان ابو طالب رافضیوں کا عقیدہ ہے۔ مولانا علی قاری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں: ابو طالب عمہ ای عم النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم و ابو علی مات کافرا ولم یؤمن به فقد ورد انه لما حضرا باطالب الوفاة جاء رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فوجد عنده ابو جهل و اضرا به فقال صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم یا عم قل کلمة احاج لك بها عند اللہ فقال ابو جهل اترغب عن ملة عبدالمطلب و تکدر هذا کلام فی ذلك المقام حتی قال ابو طالب فی اخر المرام انا علی ملت ابی عبدالمطلب و ابی ان یقول لا اله الا اللہ فقال صلی اللہ علیہ وسلم

Click For More Books

﴿۲۸﴾

والله لا ستغفرون لك ما لم انه عنك فانزل الله تعالى مَا كَانَ لِلنَّبِيِّ وَالَّذِينَ
آمَنُوا اى بان ماتوا على الكفر وانزل الله فى حق ابى طالب حين عرض
رسول الله صلى الله تعالى عليه وآله وسلم الايمان على ابى طالب
حين موته فابى ورد انك لا تهدي من احببت ولكن الله يهدي من
يشاء (رواه البخارى ومسلم شرح فقہ اکبر ص ۱۳۲ طبع دہلی) ترجمہ: حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا چچا
ابوطالب مولا علی رضی اللہ عنہ کا والد کفر پر مرا اور ایمان نہیں لایا۔ جب ابوطالب پر
موت کا وقت آیا تو اس کے پاس ابو جہل بھی تھا تو اس نے کہا کہ تو ملت عبدالمطلب
سے منہ پھیرتا ہے اور تکرار سے یہ کلام کیا۔ یہاں تک کہ ابوطالب مرنے کے قریب
پہنچا تو ابوطالب نے کہا: میں ملت عبدالمطلب پر مرتا ہوں اور کلمہ پڑھنے سے انکار کیا تو
نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے قسم کھا کر کہا: میں اس وقت تک تیرے لئے بخشش مانگوں گا
جب تک مجھے خدا تعالیٰ کی طرف سے ممانعت نہ آجائے تو یہ آیت مبارک ”مَا كَانَ
لِلنَّبِيِّ وَالَّذِينَ آمَنُوا“ سورة توبہ اور سورة القصص کی آیت مبارک ”انك لا تهدي
من احببت نازل ہوئی۔ بخاری اور مسلم نے ان دونوں کو نقل کیا ہے۔

ابوطالب کے متعلق امام جلال الدین سیوطی رحمۃ اللہ علیہ کا عقیدہ پڑھئے عبارت
یوں ہے۔ ابا طالب فانه ادرك البعثة ولم يؤمن وثبت (الحاوی للفتاویٰ ج ۲ ص ۲۰۳
طبع پاکستان) بے شک ابوطالب نے زمانہ بعثت یہ پایا اور مسلمان نہ ہوا یہی ثابت ہے۔
(ج ۲ ص ۲۰۸ ایضاً) امام صاحب آگے نقل کرتے ہیں۔ والصحيح من تخفيف
العذاب عنه بشفاعه ٹھیک بات یہی ہے کہ ابوطالب سے عذاب ہلکا کیا جائے گا
نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت سے۔

امام عبدالباقی زرقانی شرح مواہب میں فرماتے ہیں۔ عبارت ملاحظہ فرمائیں۔

ابا طالب لا ینجو (فانه ادرك البعثة ولم يؤمن وقد ثبت فى الصحيح

Click For More Books

(۲۹)

انہ اہون اهل النار عذابا (زرقانی شریف ج ۱ ص ۳۵۲، طبع بیروت) ترجمہ: ابوطالب نے زمانہ بعثت پایا مگر مسلمان نہ ہوا۔ امام ابن حجر عسقلانی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں: قال فی باب قصة ابی طالب انه وقف علی جزء جمعه بعض اهل الرفض اکثر فیہ من الاحادیث الواہیة الدالة علی اسلام ابی طالب ولا یثبت من ذلك شیئا۔ (زرقانی شریف ج ۱ ص ۳۶۲، طبع بیروت)

بعض روافض نے اکثر احادیث واہی جمع کی ہیں ابوطالب کے اسلام ثابت کرنے پر لیکن ان میں سے کوئی صحیح نہیں ہے۔ قصیدہ ابوطالب کے متعلق علامہ زرقانی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں:

ومعرفة ابی طالب بنبوته علیہ السلام جاءت کثیر من الاخبار فلاحاجة الی اخذها من شعره هذا تمسک بها الشیعة (زرقانی شریف ج ۱ ص ۳۶۱) ترجمہ: نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کی معرفت میں ابوطالب کے بہت سے اخبار ہیں جو کہ شعروں میں ہیں۔ شعروں کو قبول کرنے کی کوئی ضرورت نہیں کیونکہ شعروں سے شیعوں نے استدلال لیا ہے۔ معرفت نبوت کا جواب ہم ابن کثیر کی عبارت سے نقل کر آئے۔ جملہ نقل ہے۔ یحجہ جاشدیدا طبعیا لاشرعیا، العاقل تکفیه

الإشارة

حدیث عباس کا رافضی سہارا لیتے ہیں۔ امام زرقانی رحمۃ اللہ علیہ یوں فرماتے ہیں: لانه لم یکن اسلم حینئذ فقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لم اسمع آگے لکھتے ہیں: من قول العباس لم یروہ بلفظ انه اسلم عند الموت کا توہم وبهذا احتج الرافضة ومن تبعهم علی اسلامہ۔ (زرقانی شریف ج ۲ ص ۴۵، حضرت عباس رضی اللہ عنہ والی روایت صحیح نہیں کیونکہ وہ اس وقت خود مسلمان نہ تھے اور سرکار نے فرمایا: میں نے نہیں سنا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا نہ سننا اس

Click For More Books

<https://archive.org/details/@zohaibhasanattari>

﴿۳۰﴾

بات کی دلیل ہے کہ ابوطالب نے کلمہ نہیں پڑھا، جب کہ ابسی کا لفظ کثیر احادیث سے ثابت ہے۔ امام زرقانی رحمۃ اللہ علیہ اور امام قسطلانی نے مذکورہ روایت کا رد کیا ہے۔

ان الصحيح من الحديث قد اثبت لابی طالب الوفاة على الكفر، (زرقانی ج ۲ ص ۴۰ باب وفاة خدیجہ و ابوطالب۔ بے شک صحیح حدیث سے ثابت ہے کہ ابوطالب کی موت کفر پر ہوئی، آگے انکار والی حدیث بخاری کی نقل ہے۔

محدث سہلی رحمۃ اللہ علیہ کا عقیدہ پڑھئے: عبارت یوں نقل فرماتے ہیں۔

ان الصحيح من الاثر قد اثبت لابی طالب على الكفر و اثبت نزول هذه الاية فيه ما كان للنبي والذين امنوا ان يستغفروا للمشركين۔ (سیرت ابن ہشام علی الرضوان ج ۱ ص ۲۵۸ باب وفاة ابی طالب)۔ ترجمہ: بے

شک صحیح حدیث سے ثابت ہے کہ ابوطالب کی موت کفر پر ہوئی اور اس کے حق میں آیت مبارک: ”مَا كَانَ لِلنَّبِيِّ وَالَّذِينَ آمَنُوا“ نازل ہوئی۔ قرآن کریم کی تین نصوص اس پر دلالت کرتی ہیں کہ ابوطالب کی موت کفر پر ہوئی۔ نص قرآنی کے مقابل کسی بھی فرد کا قول باطل ہے۔ ابوطالب کا کلمہ نہ پڑھنا بھی اکثر احادیث سے ثابت ہے اور فقہائے کرام علیہم الرضوان کی تصریحات معتبرہ سے ثابت ہے۔ ہم نے مدلل و

مثبت جواب لکھ دیا۔ مقصود جواب ہے اور اوراق سیاہ کرنا نہیں۔ ہم منشا تائبش سے سوال کرتے ہیں نمبراً: کہ ایمان ابوطالب کے متعلق کوئی نص قرآنی پیش کریں۔ نمبر ۲:

ابوطالب نے ساری زندگی میں ایک بار بھی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہہ کر آپ کو

بلایا ہو جتنے حوالے پیش کریں اتنے صد روپے انعام حاصل کریں۔ نمبر ۳: کسی حدیث یا

فقہائے کرام علیہم الرضوان کی تصریحات سے ابوطالب کو سیدنا یا رضی اللہ لکھا دکھا

ریں۔ ہمارا وہی عقیدہ ہے جو صحابہ کرام و تابعین و ائمہ اہل سنت علیہم الرضوان کا عقیدہ

ہے۔ مزید تحقیق کے لئے امام المناظرین صوفی محمد اللہ دتلاہ ہوری رحمۃ اللہ علیہ اور امام

Click For More Books

اہل سنت مجددین و ملت اعلیٰ حضرت کا رسالہ ایمان ابوطالب کے متعلق لکھا ہے اس کو پڑھیں۔ صاحب کرمانی شارح بخاری رحمۃ اللہ علیہ کا عقیدہ پڑھئے عبارت یوں ہے:

ابی طالب و كانت وفاته قبل الهجرة بقليل فيه انه لم يمت على

ملة الاسلام (کرمانی ج ۷، ص ۱۳۶ از آیت ما کان للنبي الایة) (طبع بیروت)

ابوطالب ہجرت سے تھوڑا عرصہ پہلے فوت ہوا اور ملت اسلام پر نہیں مرا۔

ایمان ابوطالب ص ۳۰ پر عبارت نقل ہے۔ ای لَا تُصَلِّ عَلَيْهِ نماز جنازہ مت

پڑھنا۔ آگے خود ہی اقرار کرتا ہے کہ نماز جنازہ ہجرت کے ۹ ماہ بعد فرض ہوئی۔

لا تصل علیہ کا جملہ نماز جنازہ پر دلالت نہیں کرتا بلکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بخشش

کی دعا مانگنے سے منع فرمایا تو معنی یہ ہوا کہ ابوطالب پر دعائے بخشش نہ کرنا کیونکہ نص

قرآنی سے ثابت ہے کہ کفار کے لئے دعائے بخشش کرنی منع ہے۔ مَا كَانَ لِلنَّبِيِّ

وَالَّذِينَ آمَنُوا یہ آیت ابوطالب کے حق میں نازل ہوئی لکھتا ہے کہ جو علماء اہل سنت

ابوین کریمین کو مسلمان مانتے ہیں اور حضرت ابوطالب کو کافر خیال کرتے ہیں۔ بندہ

کے نزدیک ان کا یہ فرق تعجب انگیز ہے۔ یعنی ابوین کریمین کا اسلام احادیث ضعیفہ سے

ثابت کرتے ہیں اور حضرت ابوطالب کا ایمان احادیث صحیحہ ہونے کے باوجود تسلیم

نہیں کرتے اس فقیر نے غور کیا تو دو امر معلوم ہوتے ہیں۔

اول: حضرت ابوطالب کے ایمان پر دلائل سے ناواقف ہیں۔

دوم: جب انہوں نے ابوطالب پر کفر کا فتویٰ لگا دیا تو اس سے رجوع میں اپنی

کسر شان سمجھے ہیں اور اپنے آپ کو خطا سے مبرا خیال کرتے ہیں۔ حالانکہ ائمہ مجتہدین

سے خطا کا بھی احتمال بلکہ بعض ائمہ کرام نے اپنے اقوال سے رجوع بھی کیا ہے۔

ایمان ابوطالب ص ۱۵۴۔ ہم تاہم قصوری سے پوچھتے ہیں کہ ابوطالب پر کفر کا فتویٰ

جنہوں نے لگایا ہے وہ حق بجانب ہیں کیونکہ انہوں نے آیات قرآنیہ پر عمل کیا ہے اور

[Click For More Books](#)

﴿۳۲﴾

جن ائمہ نے کفر ابوطالب سے رجوع کیا، ان کا نام پتہ کتاب معتبر کا حوالہ ندارد۔ معلوم ہوا کہ نقل کردہ عبارت قصوری کی خود ساختہ ہے جو تمام امت مسلمہ کے صریح خلاف ہے۔ آپ کے نزدیک ابوطالب مسلمان تھے تو کافر کہنے والے آپ کے نزدیک کس زمرے میں داخل ہوئے۔ نص قرآنی کے مقابل کسی کے قول کی کوئی حجت نہیں، وہ قول باطل قرار دیا جائے گا۔ اجماع قطعی ہو یا اجماع سکوتی ہو اس کے خلاف قول ضعیف باطل ہے۔ ایمان ابی طالب کا عقیدہ صرف روافض کا ہے۔ اہل سنت کا نہیں، اسی طرح روح المعانی سے ہم نے معروف مذہب اہل سنت کا ثابت کیا میں نہ مانوں گا کوئی علاج نہیں۔ نقل کے آگے عقل کی بات حجت نہیں ہے۔ ہم پھر اس اجہل انسان سے پوچھتے ہیں کہ ہم نے نص قرآنی سے ابوطالب کا کلمہ نہ پڑھنا ثابت کیا ہے۔ قصوری کو چاہئے کہ وہ ابوطالب کے ایمان کے بارے میں نص قرآنی پیش کرے۔ ”فَإِنْ لَّمْ تَفْعَلُوا وَلَنْ تَفْعَلُوا“ وقت کی طوالت کے پیش نظر ہم خاتم المحدثین شاہ عبدالحق محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ کا فیصلہ اور عقیدہ نقل کرتے ہیں۔ عبارت یوں ہے۔

حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے چچاؤں میں سے بجز حضرت عباس رضی اللہ عنہ کے کوئی مسلمان نہ ہوا۔ ابوطالب و ابولہب نے زمانہ اسلام پایا، اسلام کی توفیق نہ پائی جمہور علماء کا مذہب یہی ہے۔ (مدارج النبوة اردو ج ۲ ص ۸۴۲)

صاحب ہدایہ جو کہ اہل سنت و جماعت کی فقہ کی معتبر کتاب ہے اس کا حوالہ یڑھے۔

ترك عليا و جعفر مسلمين و عقيلًا و طالبًا كافرين . (فتح القدير مع الكفاية ج ۵ ص ۲۵۵) ابوطالب نے اپنے پیچھے مولا علی اور جعفر کو چھوڑا وہ دونوں مسلمان تھے۔ عقیل اور طالب دونوں کافر۔

علامہ شامی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، عبارت یوں ہے:

Click For More Books

<https://archive.org/details/@zohaibhasanattari>

﴿۳۳﴾

ولهذا اطبقوا على كفر ابي طالب . (رد المحتار على در المختار ج ۳ ص ۳۱۰)

ابو طالب کے کفر پر ائمہ کرام کا اتفاق ہے۔

حدیث صحیح مندرجہ ذیل ہے۔ حدثنا محمد بن يحيى قال ثنا وهب بن

جرير قال ثنا شعبة عن ابي اسحاق عن ناجية بن كعب عن علي رضي

الله عنه قال يا رسول الله صلى الله عليه وسلم ان عمك قدمات قال

اذهب فواره قلت انه مات شركا قال اذهب فواره فوارته ثم اتيت

قال اذهب فاغتسل . المنتقى لابن الجارود حديث ۵۵۰ المتوفى

۵۳۰۷

امام ابن حجر صاحب فتح الباری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں:

حدیث سعید بن المسیب عن ابيه انه اخبر لما حضرت ابا

طالب الوفاة نزلت "مَا كَانَ لِلنَّبِيِّ وَالَّذِينَ آمَنُوا" التوبة (فتح الباری ج ۸ ص ۳۳۱،

ج ۸ ص ۵۰۶، ج ۸ ص ۵۰۸) نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت کے متعلق یوں فرماتے ہیں:

والمراد تخفيف العذاب عنه كما جاء مبينا في حديث آخر فان

الشفاعة لابي طالب في تخفيف العذاب

(فتح الباری شرح بخاری ج ۳ ص ۳۱۰ طبع بیروت)

محمی النبی علاء الدین بغدادی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں: زیرا آیت ان الذین

كفروا (البقرة)

کفر کی چار اقسام لکھ کر فرماتے ہیں: انہم لایومنون کابنی جہل و

ابو طالب . (تفسیر الخازن علی مدارک ج ۱ ص ۲۵، لایدین بہ کفکر امیہ بن

ابی الصلت و ابي طالب .

امام بغوی رحمۃ اللہ علیہ و صاحب مدارک نے بھی یہی لکھا ہے کہ ابو طالب کی

Click For More Books

<https://archive.org/details/@zohaibhasanattari>

موت اسلام پر نہیں ہوئی۔ (رسائل رضویہ ج ۲ ص ۴۳۳) ابوطالب کی تصدیق سرکار کادین تمام دینوں سے بہتر ہے، کا جواب امام اہل سنت مجددین و ملت اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں۔ جیسے ابوطالب کا کفر یہ شعر کہے واللہ میں جانتا ہوں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کادین تمام جہان کے دینوں سے بہتر ہے اگر ملامت یا طعن سے بچنا نہ ہوتا تو تو مجھے دیکھتا کہ میں کسی اہل دلی کے ساتھ صاف صاف اس دین کو قبول کر لیتا۔ (رسائل رضویہ ج ۳ ص ۴۳۴)، امام ابن حجر قسطلانی رحمۃ اللہ علیہ دس چچوں کا ذکر کرتے ہوئے فرماتے ہیں اسلموا کلہم الا طالبات کافرا والصحیح ان اباطالب و ذکر جمع الرافضة انه مات مسلما و تمسکوا باشعار و اخبار و اہیة (زرقانی شرح مواہب ج ۴ ص ۴۶۳، باب ذکر اعمامہ ج ۴ ص ۴۶۶)

حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے تمام چچاؤں نے اسلام قبول کیا مگر ابوطالب کی موت کفر پر ہوئی اور یہی عقیدہ صحیح ہے اور تمام رافضیوں نے کہا ہے کہ ابوطالب مسلمان مرا اور اشعار و اخبار و اہیہ سے استدلال پکڑا، قصائد و اشعار اور تصدیق دین سے ایمان نہیں ثابت ہوتا۔ امام ابن حجر قسطلانی رحمۃ اللہ علیہ نے یہ بھی ثابت کر دیا ہے کہ ابو طالب کے اسلام کا عقیدہ روافض کا خود ساختہ ہے۔ اس کادین سے کوئی تعلق نہیں امام ابن حجر رحمۃ اللہ علیہ اور امت محمدیہ علیٰ صاحبہا الصلوٰۃ والسلام کا اجماعی عقیدہ ہے کہ ابوطالب نے مرتے وقت نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اصرار کے باوجود کلمہ پڑھنے سے انکار کیا۔ تمام حدیث کی کتب میں لفظ ابی مذکور ہے جو کہ اسلام کی نفی پر دال ہے۔ اعتبار خاتمہ کا ہے۔ ”انما الاعمال بالحوالیم“ جب ابوطالب کا مرنا کفر پر ثابت ہے۔ اس پر قرآن و حدیث دال ہیں۔ باقی قصے سنانا بے اصل ہیں۔ امام قسطلانی فرماتے ہیں۔ قد کان ابو طالب یحوطہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم وینصرہ و یحبہ حبا طبعیا لاشرعیا فسق القدفیہ و استہر علی کفرہ

Click For More Books

<https://archive.org/details/@zohaibhasanattari>

﴿۳۵﴾

ولله الحجة السامية . (ارشاد الساری)۔ یعنی ابوطالب نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی نصرت و حمایت سب کچھ کی، طبعی محبت بہت کچھ رکھی مگر شرعی محبت نہ تھی، آخر تقدیر الہی غالب آئی اور معاذ اللہ کفر پر وفات پائی اور اللہ ہی کے لئے حجت بلند ہے۔

(رسائل رضویہ ج ۲ ص ۴۴۷)

ابوطالب کے عذاب کے متعلق محدث دیلمی یوں فرماتے ہیں:

ابن عباس اھون اھل النار عذابا ابو طالب وھو منتعل بنعلین من نار تغلی منھما دماغه (مسند الفردوس دیلمی ص ۳۷۰ حدیث ۱۳۹۲) ابن عباس رضی اللہ عنہما فرماتے ہیں کہ ابوطالب کو عذاب جہنم ہو رہا ہے اور اس نے آگ کے جوڑے پہنے ہوئے جس سے اس کا دماغ اہل رہا ہے۔ اس حدیث پاک سے صحابی رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا عقیدہ ثابت ہوا کہ ابوطالب مسلمان نہیں، دو واسطوں سے استاد ہیں۔ علی القاری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں۔ عبارت یوں ہے۔

ایک روایت میں یہ ہے کہ ابوطالب نے بنو عبدالمطلب کو طلب کیا اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی حفاظت اور حمایت کی وصیت اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا کہ اگر حالت صحت ہوئی تو میں آپ کی بات ضرور تسلیم کر لیتا لیکن اب مجھے اچھا معلوم نہیں ہوتا، لوگ کہیں گے کہ موت کے ڈر سے مسلمان ہو گیا، جب آپ ابوطالب کے ایمان سے مایوس ہو گئے تو مجلس سے اٹھ آئے اور قسم کھائی کہ جب تک مجھے ممانعت نہ ہوگی برابر آپ کے لئے استغفار کرتا رہوں گا۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں لیکن جب ابوطالب کی وفات ہو گئی، میں نے آپ کو اطلاع کی۔ ان عمك الشيخ الضال قدمات۔ آپ کا گمراہ بوڑھا چچا مر گیا اور حضرت علی رضی اللہ عنہ سے آپ نے فرمایا: جاؤ ان کو غسل دو اور کفناؤ۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے عرض کیا وہ تو مشرک مرے ہیں۔ فرمایا جاؤ میں امید کرتا ہوں اللہ تعالیٰ ان کو معاف کر دے گا۔ (روضۃ

Click For More Books

<https://archive.org/details/@zohaibhasanattari>

﴿۳۶﴾

الاحباب اردو ص ۶۶) صحیحین میں ہے حضرت عباس رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ میں آپ کے پاس حاضر ہوا اور عرض کیا آپ کے چچا ابوطالب نے آپ کی ہر قسم کی حمایت کی اور قریش کا غصہ مول لیا آپ نے فرمایا: وہ بزم قسم کی آگ میں ہیں۔ اگر میں نہ ہوتا تو وہ دوزخ کے نیچے کے طبقہ میں ہوتے اور یہ بھی صحیح سند سے ثابت ہے کہ آپ نے ارشاد فرمایا: اھون الناس عذابا یوم القیامة ابو طالب له شرا کان من نار یغلی دماغه (رواہ البخاری) کہتے ہیں کہ ابوطالب کی عمر اسی سال سے کچھ زیادہ ہوئی وفات ابوطالب کے بارے میں جو احادیث مروی ہیں ان سے معلوم ہوتا ہے کہ آیت مبارکہ مَا كَانَ لِلنَّبِيِّ وَالَّذِينَ آمَنُوا ان کے بارے میں نازل ہوئی۔ (روضۃ الاحباب ص ۶۷) اس حدیث کو ابوداؤد و نسائی نے نقل کیا ہے۔ اس سے ثابت ہوا کہ جمہور امت کے ساتھ ہیں ابوطالب کا انتقال کفر پر ہوا۔ کتب سیرت میں موجود ہے کہ حمایت تو ابولہب نے بھی کی منشاء تائبش ابولہب کو بھی نعوذ باللہ رضی اللہ لکھ دیں۔ عقل ہوتی تو رافضی نہ بنتا۔ بخاری شریف میں حدیث ہے آپ کے میلاد کی خوشی کرنے سے تو ابولہب کے عذاب میں تخفیف ہوگئی۔ (سیرت خیر العباد ج ۱ ص ۳۶۶)

مذکورۃ الصدر حدیث کو بہت سارے حدیثین کرام علیہم الرضوان سے صحیح سند سے نقل کیا ہے۔ عن ابی سعید بن المسیب بن حزن رضی اللہ عنہما

(صحیح ابن حبان ج ۲ ص ۱۶۴ طبع بیروت)

یہ حدیث نقل کر کے آگے یوں لکھتے ہیں کہ مَا كَانَ لِلنَّبِيِّ وَالَّذِينَ آمَنُوا
اِنَّكَ لَا تَهْدِي مَنْ اَحْبَبْتَ دونوں آیات مبارکہ ابوطالب کے حق میں نازل ہوئیں۔

سند الفقہاء امام زیلیعی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں: ان عمك الشيخ الضال الحدیث پوری سند سے عن علی رضی اللہ عنہ سے روایت کرتے ہیں۔ (طبقات ابن

Click For More Books

سعد کتاب الصلوٰۃ ج، ص ۲۸۱، وایضاً مصنف ابن ابی شیبہ ج ۳ ص ۱۲۳، مسند امام احمد ص ۱۰۳، ص ۱۲۹، سنن البیہقی ص ۳۰۴ جلد ۱ ابوداؤد باب الغسل علی المیت، نصب الرایۃ لاحادیث الہدایہ ج ۲ ص ۲۸۰ طبع پاکستان علامہ شہاب الدین خفاجی رحمۃ اللہ علیہ کا فیصلہ پڑھے عبارت مندرجہ ذیل ہے:

المیراد ابوطالب واسمہ عبد مناف وحنوتہ علی النبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم و محبة له امر شہور فی السیر و کان یعظمہ و یعرف نبوتہ و لکن لم لوفقہ اللہ للسلام و فی الامتناع ان فیہ حکمة خفیة من اللہ لانہ عظیم قریش لایمکن احد منهم ان یتعدی علی ما فی جوارہ فکان النبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم فی بدعامرہ فی کنف حمایة یدبہم عنہ مانقلہ بعضهم من ان اللہ احیاء له صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم فامن بہ کابویہ و اظنہ من افتراء الشیعة

(نیم الریاض شرح شفا ج ۱ ص ۲۱۰، طبع بیروت)

نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ابوطالب کی حمایت و محبت مشہور ہے اور تعظیم و معرفت نبوت معلوم مگر اللہ تعالیٰ نے مسلمان ہونے کی توفیق نہ دی اور کتاب الامتناع میں فرمایا: ابوطالب کے مسلمان نہ ہونے میں اللہ تعالیٰ کی ایک باریک حکمت ہے۔ وہ سردار قریش تھے کوئی ان کی پناہ پر تعدی نہ کر سکتا تھا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم ابتدائے اسلام میں ان کی حمایت میں تھے وہ مخالفوں کو حضور سے دفع کرتے تھے خود ایک شعر میں کہا: خدا کی قسم! تمام قریش اکٹھے ہو جائیں تو حضور تک نہ پہنچ سکیں گے جب تک میں خاک میں دبا کر لٹا نہ دیا جاؤں، تو اگر وہ اسلام لے آتے قریش کے نزدیک ان کی پناہ کوئی چیز نہ رہتی، آخر ان کے انتقال پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو ہجرت فرمائی ہوئی۔

بعض لوگوں نے نقل کیا ہے بے شک اللہ تعالیٰ نے ابوطالب کو زندہ کیا وہ ایمان

[Click For More Books](#)

لائے اور یہ بات شیعوں کی خود ساختہ بہتان ہے۔ اصابہ فی تمیز صحابہ کی عبارت پیش خدمت ہے۔

یعنی ابوطالب کے اشعار کا جواب یوں ہے۔ محدثین کا مذہب دیکھئے۔

اما شهادة ابي طالب بتصدق النبي صلى الله تعالى عليه وسلم
فالجواب عنه و عماورد من شعر ابي طالب في ذلك انه نظير ما حكي
الله تعالى عن كفار قريش و جحدوبها و ستيقنها انفسهم ظلما و علوا
فكان كفرهم عناد او منشوه من الانفة و الكبر و الى ذلك اشار
ابو طالب بقوله لولا ان تعيرني قريش . (اصابہ ص ترجمہ) یعنی ابوطالب
کے ان اشعار و غیر ہا کا جواب یہ ہے کہ وہ اسی قبیل سے ہے جو قرآن عظیم نے کفار کا
حال بیان فرمایا کہ براہ ظلم و تکبر منکر ہوتے اور دل میں خوب یقین رکھتے تو یہ کفر عناد ہوا
ان کی منشاء تکبر اور اپنے نزدیک بڑی ناک والا ہونا ہے۔ خود ابوطالب نے اس یک
طرف اشارہ کیا کہ اگر قریش کی طعنہ زنی کا خیال نہ ہوتا تو اسلام لے آتا (رسائل رضویہ ج
۲ ص ۲۵۱) اب ابوطالب کے مرتے وقت وصیت کی حقیقت ملاحظہ فرمائیں۔

منقول ہے حکمی عن هشام بن السائب الكلبي او ابیه قال لما
حضرت ابا طالب الوفاة جمع اليه وجوه قريش . هشام بن سائب كلبي كوفي
يا اس کے باپ كلبي سے حکایت کی گئی کہ ابوطالب نے مرتے وقت سرداران قریش کو
جمع کر کے وصیت کی۔ یہ دونوں باپ بیٹا رافضی شیعہ ہیں۔ عند الحمد ثین مطعون ہیں۔
(میزان الاعتدال ج ۲ ص ۳۰۳، امام بخاری) امام یحییٰ بن معین امام عبدالرحمن بن مہدی نے
متروک کہا۔ امام سفیان فرماتے ہیں مجھ سے كلبي نے کہا جتنی حدیثیں میں نے آپ
کے سامنے ابوصالح سے روایت کی ہیں وہ سب جھوٹ ہیں۔ اسماء الرجال کی کتب
میں دونوں باپ بیٹا کو کذاب لکھا ہے۔ ہم منشاء قصوری سے پوچھتے ہیں کہ اہل حق کے

Click For More Books

﴿۳۹﴾

سامنے جھوٹی روایات پیش کرنے سے کیا فائدہ، جھوٹے پر تو خدا کی لعنت ہے۔ جس پر خدا لعنت بھیجے وہ حق پر نہیں ہو سکتا، اپنی آخرت کی فکر کریں، تحریراً جھوٹ بولنا چھوڑ دیں، ہمیشہ سچائی کام دیتی ہے۔

قطب ربانی سیدنا غوث الاعظم رضی اللہ عنہ کا عقیدہ، عبارت پڑھئے۔

لما اختضر ابوطالب ودنا ان يخرج من الدنيا جاءه الرسول صلى الله عليه وسلم تهما بايمانه و توحيده فقال له قل يا عم مرة لا اله الا الله احاج لك عند ربي و اخرجك بها عن زمرة المشركين قال يا ابن اخي والله انى علمت انك لصادق فى جميع ما جئت به لكن اكره ان يقال جزع ابو طالب عند الموت (تفسير البيلاني سورة القصص ۵۶، ۲۰، ج ۳ ص ۷۵ طبع پاکستان) ترجمہ: ابوطالب جس وقت موت کے قریب ہوئے تو ان کے پاس رسول صلی اللہ علیہ وسلم حاضر ہوئے، ایمان اور توحید سے ابوطالب متعظم تھا، تو آپ نے اس کو فرمایا: تو کہہ میرے چچا تو ایک مرتبہ کلمہ لا الہ الا اللہ کہہ دے، میں آپ کے بارے میں اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں جھگڑوں گا اور میں تجھ کو مشرکین کے گروہ سے نکالوں گا۔ ابوطالب نے کہا: اے میرے بھتیجے! اللہ کی قسم! میں جانتا ہوں بے شک آپ ضرور سچے ہیں اس تمام جو آپ لائے مگر میں ناپسند کرتا ہوں کہ میں کہوں یعنی کلمہ پڑھوں موت سے گھبرا کر، اس روایت پر جرح کی جائے تو دفتر درکار ہے۔ روایت میں لفظ قل امر ہے اور زمرة المشرکین آگے یا ابن اخي کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیوں نہیں کہا آگے جملہ لصادق ہے۔ ان محمد لصادق تو ابو جہل بھی کہتا تھا کیا وہ مسلمان ہوا عند الموت کا جملہ صاف بتا رہا ہے کہ ابوطالب نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے امر کو نہیں مانا اکروہ کا جملہ میں نہیں پڑھتا پر دال ہے۔ جب قل صیغہ امر کا انکار کیا تو اسلام چہ معنی دارد۔

Click For More Books

<https://archive.org/details/@zohaibhasanattari>

﴿۴۰﴾

آگے نقل ہے: انزل سبحانه هذه الآية تاديباً لحبيبه صلى الله عليه وسلم و ردعا عن طلب شيء لا يعرف حصوله (من احببت) و اردت ايمانه . جناب غوث اعظم رضی اللہ عنہ بھی ایمان ابوطالب کے قائل ثابت نہ ہوئے۔ سرکار غوث پاک کی کسی کتاب سے ”اسلم ابو طالب“ دکھادیں منہ مانگا انعام حاصل کریں۔ چند حوالہ جات پڑھئے۔ ارشاد الساری باب نزول مکة، بنایہ شرح ہدایہ علامہ عینی رحمۃ اللہ علیہ، باب صلاة الجنائز معنی المحتاج، شرح ابوداؤد باب الرجل يموت قرابة له مشرك، البدایہ لابن کثیر ذکر اعمام النبی صلی اللہ علیہ وسلم حاشیہ بحیرمی طامات ابوطالب (الضال دلیل علی موتہ کافراً۔

ابن قیم جوزی التوفی ۷۵۱ھ لکھتا ہے: وکان عقیل ورث ابا طالب ولم يرث علی لتقدم اسلامه علی موت ابيه، (زاد المعاد ج ۱ ص ۹۳۵ طبع پاکستان)، عقیل ابوطالب کا وارث ہوا اور مولا علی رضی اللہ عنہ وارث نہ ہوئے۔ اس لئے علی رضی اللہ عنہ اپنے باپ سے پہلے اسلام لائے۔

امام بیہقی رحمۃ اللہ علیہ نے بھی مذکورہ حدیث کی مکمل نقل کر کے آگے لکھا ہے۔ ”مَا كَانَ لِلنَّبِيِّ وَالَّذِينَ آمَنُوا - وَانَكَ لَا تَهْدِي مَنْ اَحْبَبْتَ“ یہ دونوں آیات ابوطالب کے حق میں نازل ہوئیں اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان لا استغفرن لك مالم انه عنك (کتاب الاسماء والصفات ص ۱۲۳ طبع بیروت) امام علی متقی ہندی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں: من قال الكلمة التي راوت عمي عليها فردها جس آدمی نے وہ کلمہ کہا جو میں نے بار بار اپنے چچا پر پیش کیا تو انہوں نے مجھے لوٹا دیا۔ (کنز العمال اردو ج ۱ ص ۶۷)

۱۴۰۶ عن ابی بکر قال قلت يا رسول الله ما نجاه هذا الامر قال من

قبل الكلمة التي عرضتها علي عمي فردها فهي له نجاه

Click For More Books

(کنز العمال اُردو ج ۱ ص ۳۱۴)

حضرت ابی بکر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس معاملے کی نجات کیا ہے؟ تو ارشاد فرمایا: وہ کلمہ جو میں نے اپنے چچا پر پیش کیا تھا، اس نے انکار کر دیا۔ جس آدمی نے وہ کلمہ مجھ سے قبول کیا تو اس کے لئے نجات ہے۔

صفی الرحمن مبارک پوری لکھتا ہے۔ رجب ۱۰ھ میں ابوطالب کی وفات ہوئی سیدہ خدیجہ رضی اللہ عنہا کی وفات صرف تین دن پہلے ماہ رمضان میں ہوئی۔ صحیح بخاری میں حضرت مسیب سے مروی ہے کہ جب ابوطالب کی وفات کا وقت آیا تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان کے پاس تشریف لے گئے۔ وہاں ابو جہل بھی موجود تھا، آپ نے فرمایا: چچا جان آپ لا الہ الا اللہ کہہ دو، بس ایک کلمہ جس کے ذریعے میں اللہ کے پاس آپ کے لئے حجت پیش کر سکوں گا۔ ابو جہل عبد اللہ بن امیہ نے کہا: ابوطالب کیا عبدالمطلب کی ملت سے رخ پھیر لو گے۔ پھر یہ دونوں ان سے بات کرتے رہے یہاں تک کہ آخری بات جو ابوطالب نے لوگوں سے کہی تھی کہ عبدالمطلب کی ملت پر۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: میں جب تک روکا نہ جاؤں گا آپ کے لئے دعائے مغفرت کرتا رہوں گا اس پر یہ آیت نازل ہوئی: مَا كَانَ لِلنَّبِيِّ وَالَّذِينَ آمَنُوا أَنْ يَسْتَغْفِرُوا لِلْمُشْرِكِينَ وَلَوْ كَانُوا أَوْلَىٰ قُرْبَىٰ إِلَيْهِ تَرْجُمَهُ: نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور اہل ایمان کے لئے درست نہیں کہ مشرکین کے لئے دعائے مغفرت کریں، اگرچہ وہ قرابت دار ہی کیوں نہ ہوں، جب کہ ان پر واضح ہو چکا ہے کہ وہ لوگ جہنمی ہیں اور یہ آیت نازل ہوئی: "إِنَّكَ لَا تَهْدِي مَنْ أَحْبَبْتَ" آپ جسے پسند کریں ہدایت نہیں دے سکتے۔ صحیح بخاری میں حضرت عباس بن عبدالمطلب رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا: کیا آپ اپنے چچا کے کام آسکے کیونکہ وہ

Click For More Books

﴿۴۲﴾

آپ کی حفاظت کرتے تھے اور آپ کے لئے دوسروں پر بگڑتے اور ان سے لڑائی لیتے تھے۔ آپ نے فرمایا: وہ جہنم کی ایک چھمکھلی میں ہیں اور اگر میں نہ ہوتا تو وہ جہنم کے سب سے گہرے گڑھے میں ہوتے۔ بخاری شریف عربی ج ۱ ص ۵۴۸ باب قصۃ ابی طالب۔

ابوسعید خدری رضی اللہ عنہ کا بیان ہے کہ ایک بار نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آپ کے چچا کا تذکرہ ہوا تو آپ نے فرمایا: ممکن ہے قیامت کے دن انہیں میری شفاعت فائدہ پہنچا دے اور انہیں جہنم کی ایک گہری جگہ میں رکھ دیا جائے کہ آگ صرف ان کے دونوں ٹخنوں تک پہنچ سکے۔ (بخاری شریف ج ۱ ص ۵۴۸)

ابوطالب کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت کا صلہ جو ملا وہ ملاحظہ فرمائیں، عبارت یوں ہے: (والدرک) وفيه تصريح بتفاوت عذاب اهل النار فان قلت اعمال الكفر هباء منشورا لا فائدة فيها قلت هذا النقع هو من بركة رسول الله صلى الله عليه وسلم وخصائمه

(کرمانی شرح بخاری ج ۱۵ ص ۹۷ طبع بیروت حدیث ۳۶۶۳)

(الدرک) میں صاف ظاہر ہے کہ اہل نار کے عذاب میں فرق ہے اگر تو کہے اعمال کفر سے عمل نیک ہباء منشورا ہوتے ہیں اس میں کوئی فائدہ نہیں تو میں کہتا ہوں یہ اس کو نفع رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی برکت سے ہے اور آپ کے خصائص میں شامل ہے۔

حوالہ تفسیر کبیر کا عبارت یوں ہے: هذه الآية في ظاهرها على كفر ابى طالب ثم قال الزجاج اجمع المسلمون على انها نزلت في ابى طالب . (تفسیر کبیر) منشاء تابش کو اتنا بھی شعور نہیں کہ متکلم کلام کرنے کے بعد اپنے کلام کے خلاف خود ہی لکھ دے تو وہ بات ما قبل والی حجت ہی نہیں رہتی، عقل ہوتی تو رافضی

Click For More Books

<https://archive.org/details/@zohaibhasanattari>

نہ بنتے۔ لیجئے تابش قصوری کی کذب بیانی کا پول ہم کھولتے ہیں۔ امام رازی رحمۃ اللہ علیہ لکھتے ہیں: اشهد لك بها عند الله تعالى قال يا ابن اخي قد علمت انك صادق ولكني اكره (تفسیر کبیر ج ۶ ص ۶۱۸) میں تیرے لئے اللہ تعالیٰ کے ہاں گواہی دوں گا تو کلمہ پڑھ لے تو ابوطالب نے کہا: اے میرے بھائی کے بیٹے! بے شک میں جانتا ہوں کہ تو سچا ہے لیکن مجھے یہ پسند نہیں کہ یہ موت سے ڈر گیا۔ ہم نے عبارت اختصار کے ساتھ نقل کی ہے۔ اس روایت میں اکرہ کا جملہ قصوری کو منہ چڑا رہا ہے۔ ابوطالب نے کلمہ پڑھا نہیں تو اسلام چہ معنی دارد مفسر قرآن مفتی احمد یار خاں نعیمی رحمۃ اللہ علیہ کا فیصلہ پڑھئے۔ عبارت یوں ہے: زیر آیت فَلَا يُخَفَّفُ عَنْهُمْ الْعَذَابُ (پ البقرہ آیت نمبر ۸۶) کے تحت لکھتے ہیں

اس سے دو مسئلے معلوم ہوئے ایک یہ کہ کفار کے سرداروں کا عذاب کبھی ہلکا نہ ہوگا اگرچہ بعض ماتحت کفار کا عذاب کسی وجہ سے ہلکا ہو جائے۔ جیسے ابوطالب کا عذاب اس لئے ہلکا ہے کہ انہوں نے حضور کی خدمت کی۔ نور العرفان حاشیہ القرآن ص ۲۰ مفتی صاحب کی نقل کردہ عبارت سے ثابت ہو گیا کہ ابوطالب کافر ہے۔ تابش کی نقل کردہ لَا يُخَفَّفُ عَنْهُمْ الْعَذَابُ الایۃ کا ترجمہ جو اب ہم قرآن کریم کی آیت مبارکہ سے نقل کرتے ہیں: وَقَدِمْنَا إِلَىٰ مَا عَمِلُوا مِن عَمَلٍ فَجَعَلْنَاهُ هَبَاءً مَّنثُورًا (پ ۱۱۹ الفرقان آیت نمبر ۲۲ حاشیہ نمبر ۹ پر لکھتے ہیں۔ بعض کفار کی بعض نیکیوں کی وجہ سے عذاب ہلکا ضرور ہوگا جیسے ابوطالب حضور کی خدمت کی وجہ سے جہنم سے باہر معذب ہوں گے۔ مذکور عبارت میں حکیم الامت مفتی احمد یار خاں نے ابوطالب کو کفار میں شمار کیا ہے۔

شاہ ولی اللہ محدث دہلوی کا فیصلہ پڑھئے، مَا كَانَ لِلسَّبِي وَالَّذِينَ آمَنُوا برائے شرک آرنندگان و گفته اند پیغمبر با ابوطالب در مرض موت تفسیر حسینی فارسی ترجمہ ص

Click For More Books

﴿۴۴﴾

۴۳۵ آگے لکھتے ہیں زیر آیت: إِنَّكَ لَا تَهْدِي مَنْ أَحْبَبْتَ (انقص آیت نمبر ۵۶ تفسیر حسینی قاری ص ۸۷۶) آورندہ اند کہ آنحضرت بر ایمان عم خود ابوطالب بغایت حریم بود بوقت وفات حکیم الامت مفتی احمد یار خاں نعیمی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں۔ ابوطالب و ابولہب یکساں نہیں۔ (تفسیر نعیمی پارہ ۱۰ تو ب ص ۵۲۳، پ ۱۰ ص ۴۱۳) یہی کافر کی امداد ہے۔ کما ذکر ابو طالب (البقرہ آیت ۸۶ تفسیر نعیمی ج ۱ ص ۴۹۶، مغنی المحتاج باب الصلوٰۃ الجائز ج ۲ ص ۱۲۸، حاشیہ بحیری لمات ابوطالب غسل و یکنن) شارح آگے لکھتا ہے: الضال دلیل علی موتہ کافرا۔ (بحیری ج ۱ ص ۴۷۵، الدرایہ ان عمک الشیخ کافر (ص ۲۳۶، البدایہ والنہایہ لابن کثیر ج ۱ ص ۹۱، فتح الباری) ان ابا طالب کافر۔

(زاد العاد ابن قیم ج ۱ ص ۷۰، مغنی المحتاج حدیث موت ابوطالب ج ۱ ص ۳۵۹)

امام احمد بن حنبل رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں: عن علی رضی اللہ عنہ قال لما توفي ابو طالب اتيت النبي صلى الله عليه وسلم فقلت ان عمك الشيخ قدمات۔ (مسند احمد ج ۱ ص ۱۰۳ و ایضاً) عن علی رضی اللہ عنہ انه اتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال ان ابا طالب مات فقال له النبي صلى الله عليه وسلم اذهب فواره فقال انه مات شركا فقال اذهب فواره (مسند احمد ج ۱ ص ۹۷) ترجمہ: سیدنا علی رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ وہ بے شک نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس حاضر ہوئے تو آپ نے عرض کیا بے شک ابوطالب فوت ہو گیا ہے۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مولا علی رضی اللہ عنہ سے فرمایا تو جا کر اسے دبا دے۔ تو مولا علی رضی اللہ عنہ نے عرض کی بے شک وہ مشرک فوت ہوا تو آپ نے فرمایا تو جا سے دبا دے۔ خط کشیدہ عبارت میں ان حرف تحقیق ہے جو اس بات پر دلالت کرتا ہے کہ ابوطالب کے مشرک ہونے میں شک نہیں اور مات مشرکاً کا جملہ صاف اس پر دلالت کرتا ہے۔ ابوطالب کے متعلق وہی عقیدہ ہے جو اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ علیہ اور

Click For More Books

<https://archive.org/details/@zohaibhasanattari>

﴿۲۵﴾

امت مسلمہ کا ہے۔ سیدنا علی رضی اللہ عنہ کا عقیدہ بھی ہم جیسا ہے کہ ابو طالب کی موت کفر پر ہوئی۔ تابش قصوری اپنی تحقیق کو اعلیٰ حضرت سے بالاتر سمجھتا ہے۔

محدث ابن الجوزی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں: عن علی قال اتیت النبی صلی اللہ علیہ وسلم فقلت ان عمک الشیخ الضال مات قال اذهب فوارہ الوفا (ج ۱ ص ۲۰۸ حدیث) عن محمد بن کعب القرظی قال بلغنی انه اشتکی ابو طالب شکواہ الذی قبض فیہ قالت قریش یا ابا طالب ارسل الی ابن اخیک فیرسل الیک من ہذہ الجنة یدکر بشیء ویكون لك شفاء قال فخرج الرسول حتی وجد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم و ابو بکر معہ جالس فقال یا محمد عمک یقول لك یا ابن اخی انی کبیر ضعیف سقیم فارسل الی من جنتک ہذہ التی تذکر من طعامها و شرابها بشیء یكون لی فیہ شفاء قال ابو بکر ان اللہ حرمها علی الکافرین۔ (الوفاء ص ۲۰۹) پر اکثر احادیث ابو طالب کے کفر کے متعلق مذکور ہیں۔

ترجمہ: محمد بن کعب قرظی کہتے ہیں کہ مجھے معلوم ہوا کہ جب ابو طالب مرض وفات میں مبتلا ہوئے تو قریش عیادت کے لئے آئے اور مزاج پرسی کے بعد کہا آپ اپنے برادرزادہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے کہیے کہ وہ جنت سے آپ کے لئے طعام دینے کی چیزیں منگائیں تاکہ آپ صحت یاب ہو جائیں ابو طالب نے آپ کے پاس آدمی بھیجا کہ وہ جا کر کہے فرستادہ نے جا کر کہا اور آپ نے اس پر سکوت اختیار کیا۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ بھی آپ کے پاس بیٹھے تھے۔ انہوں نے فرمایا کافروں پر جنت کا طعام و شراب حرام ہے۔ پورا متن روضۃ الاحباب مترجم ص ۶۵ پر نقل ہے۔ مذکورہ روایت سے واضح ہو گیا کہ افضل الصحابہ خلیفہ اول یا رعا سیدنا ابو بکر صدیق

Click For More Books

<https://archive.org/details/@zohaibhasanattari>

﴿۳۶﴾

رضی اللہ عنہ کا عقیدہ ہے کہ ابوطالب مسلمان نہیں)

بایں الفاظ متقاربہ عن ابی صالح قال لما ابو طالب، تفسیر ابن کثیر عربی ص ۱۲۱۹ آیت نمبر ۵۰ پ ۹ زیر آیت اِنَّ اللّٰهَ حَرَّمَ عَلَی الْکَافِرِیْنَ .

تفسیر الدار المنور عربی ج ۳ ص ۹ زیر آیت اِنَّ اللّٰهَ حَرَّمَ عَلَی الْکَافِرِیْنَ .

عن ابی صالح لما مرض ابو طالب و عن سعید بن

المسیب و مات فقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم واللہ لا ستغفرن

لك مالم انه عنك . (الوقفا محدث ابن جوزی رحمۃ اللہ علیہ ج ۱ ص ۲۰۷ طبع پاکستان، بایں الفاظ متقاربہ،

الاستیعاب ج ۱ ص ۱۳، دلائل النبوة ج ۲ ص ۳۳۳، عن سعید وهو کافر سیرۃ ابن کثیر ص ۱۷۲، فصل فی وفاة ابی

طالب طبع بیروت، بل السلام ج ۱ ص ۱۷۰، سنن الکبریٰ نسائی ج ۱ ص ۲۱۰، السیر النبویہ ج ۱ ص ۱۸۹ مختصر تاریخ

دمشق ج ۲۹ ص ۳۱، معرفۃ الاصحاب لابن نعیم ج ۵ ص ۲۵۹۸ المختصم ابن جوزی ج ۸ ص ۳، منهاج السنۃ ج ۳ ص

۳۵۳، اقتضاء الصراط لابن تیمیہ ص ۱۸۲، مجموع الفتاویٰ ج ۱۵ ص ۱۹۲، المحلی بالانار ابن حزم ج ۱ ص ۲۱۰، الاحکام

الکبریٰ ابن الخیرات ج ۲ ص ۲۸۳، صحیح وضعیف البانی ج ۵ ص ۱۷۹، ہذا حدیث صحیح جمع الجوامع للسیوطی ج ۲۲ ص

۳۲۶، معنی ابن ابی شیبہ ج ۸ ص ۱۰۲ او جلد سوم)

سیدنا ابوبکر رضی اللہ عنہ والی حدیث ابوطالب کے متعلق احمد بن عبداللہ طبری

فرماتے ہیں۔ ۳۲ او عن محمد بن کعب القرظی قال بلغنی انه لما

اشتکی ابو طالب شکواہ الی قبض فیہا قالت قریش ارسل الی ابن

اخیک یرسل الیک من ہذہ الجنة الی ذکرہا ما یکون لك شفاء

فخرج رسول حتی وجد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم و ابوبکر

جالس معہ فقال یا محمد ان عمک یقول لك کبیر ضعیف سقیم

فارسل الی من جنتک ہذہ الی تذر من طعامہا و شرابہا شینا یکون

لی فیہ شفاء فقال ابوبکر اِنَّ اللّٰهَ حَرَّمَ عَلَی الْکَافِرِیْنَ . (الریاض المعرۃ

Click For More Books

<https://archive.org/details/@zohaibhasanattari>

﴿۴۷﴾

ص ۱۳۷، الفصل التاسع فی خصائصہ، طبع بیروت) ترجمہ ہم اس حدیث کا قبل کر آئے ہیں۔
شرح المطالب فی مبحث ابی طالب رسالہ اعلیٰ حضرت پر علمائے حق اہل سنت
و جماعت کی تصدیقات نقل ہیں۔

(۱) اختر شاہ جہان پوری رحمۃ اللہ علیہ ۱۹۷۵ء

(۲) سید ابوالبرکات سید احمد شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ مفتی حزب الاحناف

(۳) عبدالمصطفیٰ ازہری صاحب رحمۃ اللہ علیہ کراچی۔

(۴) شیخ القرآن مولانا غلام علی اوکاڑوی رحمۃ اللہ علیہ

(۵) حاجی ابوداؤد محمد صادق رحمۃ اللہ علیہ گوجرانوالہ

(۶) مفسر قرآن و شیخ الحدیث محمد فیض احمد اویسی رحمۃ اللہ علیہ بہاولپور

اویسی صاحب نے کشف المحجوب کا فارسی حوالہ دیا کہ ابوطالب نے کلمہ نہیں

پڑھا۔ (رسائل رضویہ ج ۲ ص ۲۸۱)

(۷) محمد مختار احمد دارالعلوم قادریہ رضویہ لائل پور

(۸) محمد ولی النبی رحمۃ اللہ علیہ

(۹) شیخ الحدیث ابوسعید محمد امین رحمۃ اللہ علیہ لائل پور

(۱۰) الفقیر محمد احسان الحق قادری رضوی لائل پور

(۱۱) شیخ الجامعہ نعیمیہ گڑھی شاہولاہور مفتی محمد حسین رحمۃ اللہ علیہ

(۱۲) شیخ الحدیث غلام رسول سعیدی صاحب رحمۃ اللہ علیہ جامعہ نعیمیہ لاہور

(۱۳) مفتی گل احمد خان ترقی صاحب

(۱۴) پاسبان مسلک رضا مفتی محمد عنایت اللہ سانگلہ ہل

(۱۵) مولانا محمد شمس الزماں خادم غوث العلوم سمن آباد لاہور

(۱۶) استاد العلماء و المدرسین شیخ الحدیث سید جلال الدین بھکھی شریف مہجرات

Click For More Books

<https://archive.org/details/@zohaibhasanattari>

﴿۳۸﴾

(۱۷) سید محمود احمد رضوی رحمۃ اللہ علیہ اس رسالہ پر جید اولیائے کرام علیہم
الرضوان کی تصدیقات ہیں۔ ہم تابش قصوری سے پوچھتے ہیں کہ جن علماء حق کی
تصدیقات رسالہ پر ہیں وہ بھی ابوطالب کو سب کرتے تو مولا علی رضی اللہ عنہ کی
حدیث کا جملہ شیخ الفضال بھی سب پر دال ہے۔ انا مدینة العلم وعلی بابها کی
شان رکھنے والے صحابی و اہل بیت کا عقیدہ ہے کہ ابوطالب کا انتقال کفر پر ہوا جناب
آپ کے نزدیک مولا علی رضی اللہ عنہ کس زمرے میں داخل ہوئے۔ عقل ہوتی تو
رافضی نہ بنتے۔ یہ گواہی گھر کی ہے۔

بجاہ سید المرسلین ۲۰۱۸-۱۷-۱۷ بروز بدھ

الشیخ اسعد محمد سعید الصاغر جی کا عقیدہ پڑھے عبارت یوں ہے:

اقول صح فی ابی طالب انه من اهل النار . وله اهون اهل النار
عذابا لنصرتہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم و دفاعہ محمد رسول
اللہ (ج ۱ ص ۱۲۳)

روی مسلم فی صحیحہ عن العباس بن عبدالمطلب انه قال یا
رسول اللہ هل نفعت ابا طالب بشیء فانه کان یحوطک و یغضب لک
قال نعم هو فی ضحضاح من نار ولو انا لکان فی اللدک الاسفل من
النار مسلم شریف ص ۱۹۵ و ایضاً و روی عن ابی سعید الخدری
ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال ان ادنی اهل النار عذابا ینتعل
بنعلین من نار یغلی دماغه من حرارة نعلیه (مسلم شریف ص ۱۹۴)

فاذا کان ابو طالب اهون و ادنی اهل النار عذابا وقد بلغة الدعوة
وعاش اکثر من عشرين فی ظل الدعوة و دعاه رسول اللہ صلی اللہ
علیہ وسلم بقول کلمة الوحید بین لفظ آخر انفاسه فعلم یفعل .

Click For More Books

محمد رسول اللہ (ج ۱ ص ۱۲۳)

ترجمہ: میں کہتا ہوں کہ صحیح مذہب یہ ہے کہ ابوطالب اہل نار سے ہے اور اس پر عذاب کی تخفیف ہوگی۔ اس لئے کہ اس نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی امداد اور دفاع بھی کیا تھا۔

مسلم شریف میں حضرت عباس بن عبدالمطلب رضی اللہ عنہ سے روایت ہے انہوں نے عرض کیا: یا رسول اللہ! کیا ابوطالب کو کوئی آپ سے فائدہ ہوگا؟ اس نے آپ کی مدد کی اور آپ کی خاطر لوگوں سے غصے ہوا تو آپ نے فرمایا: ہاں! وہ جہنم کے طبقے میں ہے اور اگر میں نہ ہوتا تو وہ جہنم کے نچلے درجے میں ہوتا۔ مذکورہ حدیث مبارکہ حدیث مرفوع ہے، سنداً صحیح ہے، صحیح حدیث کے مقابل کسی کا قول معتبر نہیں ہوتا بلکہ باطل ہوتا ہے، اس حدیث سے ثابت ہوا کہ ابوطالب کی موت کفر پر ہوئی۔

ابوطالب اہل نار ہے، اس پر عذاب ہلکا ہوگا اور بے شک اس کو دعوت حق پہنچی اور وہ دعوت کے بعد کافی عرصہ زندہ رہا، اس پر کلمہ پیش کیا گیا لیکن اس نے کلمہ نہیں پڑھا: مَا كَانَ لِلنَّبِيِّ وَالَّذِينَ آمَنُوا (توبہ آیت نمبر ۱۱۳) کا شان نزول پڑھے۔

عن الزهري عن سعيد بن المسيب عن ابيه قال لما حضر ابا طالب الوفاة دخل عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم وعنده ابو جهل وعبد الله بن ابي امية يا ابا طالب اترغب عن ملة عبدالمطلب فم يزا الا يكلمانه حتى قال آخر شيء كلمهم به على ملة عبدالمطلب فقال النبي صلى الله عليه وسلم لا ستغفرون لك ما لم انه عنه فنزلت مَا كَانَ لِلنَّبِيِّ وَالَّذِينَ آمَنُوا أَنْ يَسْتَغْفِرُوا لِلْمُشْرِكِينَ (جامع اسباب النزول (ص ۱۸۴) قرآن مجید کی آیات مبارکہ سے ثابت ہو گیا کہ ابوطالب نے باوجود دعوت کلمہ کے کلمہ نہیں پڑھا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اعلان نبوة سے تمام ادیان

Click For More Books

﴿۵۰﴾

منسوخ ہو گئے اب مسلمان وہی ہے جو صدق دل اور زبان سے کلمہ ”لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ“ پڑھے ورنہ مسلمان نہیں۔

نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان عالی شان مندرجہ ذیل ہے۔ عن ابی ہریرۃ رضی اللہ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم والذی نفس محمد بیدہ لا یسمع بی احد من ہذہ الامۃ یہودی ولا نصرانی ثم یموت ولم یؤمن بالذی ارسلت بہ الا کان من اصحاب النار (مکتوٰۃ شریف عربی ص ۱۲ کتاب الایمان) حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قسم ہے اس ذات کی جس کے قبضہ میں میری جان ہے یعنی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی اس امت کا جو یہودی اور نصرانی میری رسالت کی آواز سنے اور وہ اس حالت میں مر جائے کہ وہ مجھ پر ایمان نہ لائے جس کے ساتھ میں بھیجا گیا ہوں یعنی قرآن تو وہ دوزخی ہے۔ اس سے معلوم ہوا جو شخص نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت پر ایمان لائے وہ امت اجابت یعنی مسلمان ہے اور جنہوں نے آپ کی رسالت کو تسلیم نہیں کیا یعنی کلمہ نہیں پڑھا وہ امت دعوت اور دوزخی ہیں۔ ہم نے مسلم شریف کی روایت نقل کر کے ثابت کر دیا ہے کہ جب اقرار کلمہ نہ ہو اس وقت تک کسی قسم کی ہمدردی شریعت کے منافی ہے جو کہ ابو طالب نے کی۔

عن سعید والی حدیث متعدد کتب میں مرقوم ہے۔ مشکل الاثار، صحیح ابن حبان، معجم الکبیر، فتح الباری، مسند الشامین، مستدرک للحاکم، شرح السنۃ امام بغوی، شرح ابن بطلال، مرقاة کتاب الایمان، البدایہ لابن کثیر عن ابی ہریرہ رضی اللہ عنہ۔

امام ابی بکر احمد بن علی رازی حنفی رحمۃ اللہ علیہ المتوفی ۳۷۰ھ کا عقیدہ پیش خدمت ہے۔ اہل السنۃ والجماعۃ فمن خاف یكون دھریا و

فلاسفیا، (شرح بدالامالی ص ۳۵۲)

Click For More Books

<https://archive.org/details/@zohaibhasanattari>

﴿۵۱﴾

دوسری جگہ امام صاحب رحمۃ اللہ علیہ لکھتے ہیں، عبارت یوں ہے:

قال الكافرو المنافق من اهل النار خالدا ابدا والمومن من اهل الجنة خالدا ابدا ولو كان عاصيا الا انه كان مطعيا او تابا يدخل الجنة بلا عذاب (شرح بدالامالی ص ۷۳)

فرمایا: کہ کافر اور منافق ہمیشہ دوزخی ہیں اور مومن ہمیشہ جنتی ہیں۔

اگرچہ گنہگار توبہ کرنے والا مطیع ہو بغیر عذاب کے جنت میں داخل ہوگا۔

ابوطالب کو کسی بھی محدث نے صحابی نہیں مانا۔ اس لئے اس نے کلمہ نہیں پڑھا، وہ

امت دعوت میں شمار ہوتا ہے۔

خواجہ نظام الدین رحمۃ اللہ علیہ کا عقیدہ بھی یہی ہے

پھر خواجہ صاحب نے فرمایا کہ ابوطالب نے جو کچھ ممکن تھا کیا لیکن چونکہ ان کی

قسمت میں اسلام نہ تھا اس لئے اس نعمت سے محروم رہا۔ افضل الفوائد اردو ص ۷۳۔

ایمان کی تعریف فقہاء کرام کی زبانی سنئے۔

قال ابو حنیفة فی الفقه الاکبر والایمان هو الاقرار والتصديق

تحقیقہ ان الایمان مع الاسلام شیء واحد۔

(فتاویٰ ترمذی ج ۲ ص ۷۳۶ طبع پاکستان)

۴ امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ ایمان اقرار تصدیق کو کہتے ہیں بے

شک ایمان اور اسلام ایک ہی چیز ہے۔ شرح بدالامالی کی عبارت سے واضح ہو گیا کہ

جو مذہب اہل سنت و جماعت کا مخالف ہو وہ دہریہ یا فلاسفی ہے۔ اس کا اسلام سے

کوئی واسطہ نہیں۔

تائبش قصوری کی بددیانتی ملاحظہ فرمائیں۔ علامہ عبدالرحمن صفوری المتوفی ۹ھ

فرماتے ہیں۔ کان له صلى الله عليه وسلم اثنا عشر عما ادرك الاسلام

Click For More Books

<https://archive.org/details/@zohaibhasanattari>

منہم اربعة ابو طالب مات کافرا و حمزة اسلم و العباس اسلم و
ابولہب مات کافرا

(نزہۃ المجالس ج ۲ ص ۲۳۹ عربی و اردو ج ۲ ص ۶۷ طبع مصر باب مناقب حمزہ رضی اللہ عنہ)
حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بارہ چچا تھے۔ ان میں سے چار مسلمان ہوئے۔
ابوطالب کی موت کفر پر ہوئی۔ حمزہ و عباس رضی اللہ عنہما اسلام لائے۔ لکھتا ہے کہ
مرسل حدیث حجت نہیں ہوتی۔ اس جاہل انسان کو اتنا بھی شعور نہیں۔ امام علی القاری
رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں: والمرسل حجة عند الجمهور اذا صح اسنادہ
موضوعات الكبرى ص ۸۰ او ایضاً محدث یحییٰ بن معین فرماتے ہیں۔
سمعت یحییٰ یقول مرسلات سعید بن مسیب احسن من مرسلات
الحسن، (تاریخ یحییٰ بن معین ج ۱ ص ۱۵۳، اللغات فارسی مقدمہ ج ۱ ص ۶)

ترجمہ: مرسل حدیث عند الجمهور حجت ہے۔ یحییٰ بن معین سے میں نے سنا کہ
سعید بن مسیب کی مرسلات امام حسن بصری سے زیادہ ہیں۔ علامہ عبدالحی لکھنوی رحمۃ
اللہ علیہ فرماتے ہیں۔ ظفر الامانی ص ۳۳۸ ولد انص الشافعی علی قبول
مراسل سعید بن المسیب۔ آگے لکھتے ہیں: بل کل مرسل وجدت فیہ
الشروط فهو محتج به عند الشافعی۔ امام شافعی رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ ہر
وہ مرسل حدیث حجت ہے جس کی اسناد صحیح ہوں۔ امام الفقہاء صاحب ہدایہ رحمۃ اللہ
علیہ فرماتے ہیں:

اذا مات الکافر وله ولی مسلم فانه یغسله ویکفنه ویدفنه بذلك
امر علی فی حق ابیه ابی طالب

(ہدایہ اولین کتاب الجنائز فصل الصلوٰۃ علی المیت ج ۱ ص ۱۳۰ ہدایہ)

ترجمہ: جب کافر مر جائے تو اس کا ولی مسلمان ہو تو ولی اس کو غسل دے کفن

Click For More Books

﴿۵۳﴾

پہنائے اور دفن کر دے یہ حکم علی رضی اللہ عنہ کو سرکار نے دیا۔ امام صاحب کی تصریح سے واضح ہو گیا کہ ابوطالب کی موت کفر پر ہوئی۔

امام نسائی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں اخبرنا عبید اللہ بن سعید قال حدثنا يحيى عن سفيان قال حدثني ابو اسحاق عن ناجية ابن كعب عن علي قال قلت للنبي صلى الله عليه وسلم ان عمك الضال قدمات فمن يواريه قال اذهب فوار اباك ولا تحدثن حدثا حتى تاتيني فواريته ثم جئت فامرني فاغسلت ودعالي وذكروا دعاء الم احفظ

(نسائی شریف عربی ج ۱ ص ۲۸۳، باب مواراة المشرك اوردوج ص ۶۵۱)

ترجمہ: حضرت علی رضی اللہ عنہ سے روایت ہے میں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا کہ آپ کا بوڑھا گمراہ چچا مر گیا۔ اب کون اس کو دبائے گا۔ آپ نے فرمایا جا اور اپنے باپ کو دبا کر آ اور کوئی نئی بات نہ کر جب تک میرے پاس لوٹ کر نہ آنا۔ میں گیا اور اس کو زمین میں دفن کر آیا پھر لوٹ کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا آپ نے مجھے حکم دیا غسل کرنے کا میں نے غسل کیا، آپ نے میرے لئے دعا فرمائی۔

امام ابو یوسف صالی شامی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں: المتوفى ۹۳۲ھ

وروى الشيخان عن المسيب بن حزن رضى الله عنه قال لما حضرت ابا طالب الوفاة جاء رسول الله صلى الله عليه وسلم فوجدته عنده ابا جهل وعبدالله بن المغيرة فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم يا عم قل لا اله الا الله كلمة اشهد وفي لفظ احاج لك بها عند الله فقال ابو جهل و عبدالله بن امية يا ابا طالب اترغب عن مله عبدالمطلب فلم يزل رسول الله صلى الله عليه وسلم يعرضها عليه

Click For More Books

﴿۵۴﴾

يعودان لتلك المقالة حتى قال ابو طالب آخر ما كلمهم هو على ملة
عبدالمطلب و ابي ان يقول لا اله الا الله بعد ذلك ما كان للنبي
وَالَّذِينَ آمَنُوا أَنْ يَسْتَغْفِرُوا لِلْمُشْرِكِينَ (التوبة ۱۱۳، بل الهدى ج ۲ ص ۳۲۹ طبع

بيروت) اس حدیث کا ترجمہ پیچھے ہم کر آئے ہیں۔ یہ حدیث بخاری ج ۲ ص ۱۹۹ پر ہے

وايضاً عن العباس رضى الله عنه قال قلت يا رسول الله ان ابا
طالب كان يحو طك وينصرك و يغضب لك فهل ينفعه ذلك قال نعم
وجدته في غمرات من النار فاخرجته الى ضحضاح منها .

(بل الهدى والرشاد ج ۲ ص ۳۳۰، بخاری شریف)

وايضاً و روى البخارى عن ابي سعيد رضى الله عنه انه سمع
رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول و ذكر عنده عمه فقال لعلة تنفعه
شفاعتى يوم القيامة فيجعل فى ضحضاح من النار يبلغ كعبيه يغلى منه
دماغه

رواه الشيخان و ابن اسحاق عن النعمان بن البشير رضى الله عنه
قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ان اهون اهل النار
عذابا يوم القيامة لرجل يوضع فى احمص قدميه خمره .

وروى مسلم عن ابن عباس رضى الله عنهما قال قال رسول الله
صلى الله عليه وسلم اهون اهل النار و عذابا ابو طالب وهو منتعل
بنعلين و انه لاهونهم وهذه الاحاديث الصحيحة تبين بطلان ما نقل
عن العباس انه قال لرسول الله صلى الله عليه وسلم يا بن اخى لقد قال
اخى الكلمة التى امرته ان يقول

وقال المحافظ لو كان ابو طالب قال كلمة التوحيد مانهى الله

Click For More Books

﴿۵۵﴾

تعالیٰ نبیہ عن الاستغفار (بل الہدیٰ ج ۲ ص ۲۳۱) مذکورہ حدیث کا ترجمہ ہم پیچھے نقل کر آئے ہیں۔

اور حافظ صاحب فرماتے ہیں کہ اگر کلمہ توحید ابوطالب نے کہا تو اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دعائے بخشش مانگنے سے منع کیوں کیا۔ ثابت ہوا کہ ابوطالب کی موت کفر پر ہوئی۔

ابن عباس رضی اللہ عنہما کی روایت پر حدیث صحیح دلالہ کرتی ہے کہ ابوطالب نے کلمہ کہا نہیں۔ وروی عبدالرزاق والفریابی والحاکم صححہ عن ابن عباس رضی اللہ عنہما فی قوله تعالیٰ: وہم ینہون عنہ ویناون وان ینہلون الا انفسہم (انعام ۲۶)

نزلت فی ابی طالب (بل الہدیٰ ج ۲ ص ۲۳۱)

ترجمہ: اور وہ اس سے روکتے اور اس سے دور بھاگتے ہیں اور ہلاک نہیں کرتے مگر اپنی جانیں اور انہیں شعور نہیں۔

حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ یہ آیت حضور کے چچا ابوطالب کے حق میں نازل ہوئی جو مشرکین کو تو حضور کی ایذا رسانی سے روکتے تھے اور خود ایمان لانے سے بچتے تھے۔

مترجم قرآن اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ علیہ (کنز الایمان نمبر ۶۱، ص ۲۱۰)

سیدنا ابن عباس رضی اللہ عنہما کی آیت کے متعلق فرماتے ہیں۔ زیر آیت ”وَهُمْ يَنْهَوْنَ عَنْهُ وَيَنْتَوْنَ عَنْهُ“ يَمْنَعُونَ عَنْهُ وَيَتَبَاعَدُونَ وَيَقَالُ هُوَ أَبُو طَالِبٍ كَانِ يَنْهَى النَّاسَ عَنِ إِذَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَلَا يَتَابِعُهُ

(تفسیر ابن عباس عربی ص ۱۳۰)

مفسر قرآن امام جلال الدین سیوطی رحمۃ اللہ علیہ بعینہ نقل ہے۔ ص ۱۳۰ طبع بیروت

Click For More Books

﴿۵۶﴾

علامہ آلوسی بغدادی رحمۃ اللہ علیہ بھی یوں ہی فرماتے ہیں۔

(روح المعانی جزء ۷ ص ۱۲۷ طبع پاکستان)

مفسر قرآن علامہ علاء الدین رحمۃ اللہ علیہ ج ۲ ص ۱۰ تفسیر الخازن علی المدارک

مفسر قرآن قاضی ثناء اللہ پانی پتی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں۔

زیر آیت قال ابن عباس نزلت الایة فی ابی طالب

(تفسیر مظہری عربی ج ۱ ص ۲۲۸)

مفسر قرآن حافظ ابن کثیر فرماتے ہیں (القول الثانی) رواہ سفیان الثوری

عن حبيب بن ابی ثابت عن سمع ابن عباس يقول فی قوله (وَهُمْ

يَنْتَوْنَ عَنْهُ قَالَ نَزَلَتْ فِي أَبِي تَالِبٍ) (تفسیر ابن کثیر عربی ج ۱ ص ۱۲۷)

امام علی القاری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں: وينتوون عنه بعدم الايمان به

کابی طالب (تفسیر انوار القرآن ج ۲ ص ۱۶)

سیدنا امامنا حافظ الحدیث مفسر قرآن امام جلال الدین سیوطی رحمۃ اللہ علیہ

فرماتے ہیں:

زیر آیت: اخرج الفریابی و عبدالرزاق و سعید بن منصور و عبد

بن حمید و ابن جریر ابن المنذر و ابن ابی حاتم و الطبرانی و ابو

الشیخ ابن مردویہ بہ و الحاکم و صححہ و البیہقی فی الدلائل عن

ابن عباس وَهُمْ يَنْهَوْنَ عَنْهُ وَيَنْتَوْنَ عَنْهُ قَالَ نَزَلَتْ فِي أَبِي تَالِبٍ

(در منثور ج ۳ ص ۸)

محدث ابو یوسف شامی رحمۃ اللہ علیہ لکھتے ہیں:

وروی الامام احمد و ابو داؤد و النسائی و ابن خزیمہ فی

صحیحہ عن علی رضی اللہ عنہ قال لمات ابوطالب اتیت رسول اللہ

صلی اللہ علیہ وسلم فقلت یا رسول اللہ مات عمک الضال فی لفظ ان

Click For More Books

<https://archive.org/details/@zohaibhasanattari>

﴿۵۷﴾

ابا طالب مات فقال النبي صلى الله عليه وسلم اذهب فواره فلما
ورأيتُه جئت رسول الله صلى الله عليه وسلم قال اغتسل (بل الهدى ج ۲ ص
۴۳۱) مذکورہ حدیث مبارک کا ترجمہ ہم پیچھے کر آئے ہیں۔

(سیرت حلبیہ ج ۱ ص ۱۵۶ طبع بیروت، فیض القدر ج ۳ ص ۸۹، مات کافرا،
ارشاد الساری شرح بخاری ج ۱۳ ص ۶۵۴، ج ۱۳، ص ۶۵۲، طبع بیروت باب قصة
ابی طالب آیت مبارک: إِنَّكَ لَا تَهْدِي . (القصص ۵۶) زیر آیت: الذي نزل
فی ابی طالب) والله لا استغفرون لك مالم . أنه (تفسیر الخازن علی
المعالم، قوله انك لا تهدي (ج ۳ ص ۱۵۳ طبع پاکستان)

عبارت ان اهون اهل النار عذا بايعنى ابا طالب (ترغيب الترهيب منذرى
ج ۳ ص ۲۸۷، فتاوى الاظهر، ج ۸ ص ۱۰۳، طبی شرح مشکوٰۃ ج ۱۰ ص ۲۷۸، مرقاۃ باب صفة النار ج ۹ ص ۶۳۹)
عبارت عن نعمان بن بشير: ان اهون اهل النار وعن ابن عباس
رضى الله عنهما (حدیث نمبر ۵۶۶۹)

مذکورہ حدیث کی شرح امام علی القاری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں:

اهون اهل النار عذا با اي من الكفار ابو طالب لقوله تعالى في
حقه باتفاق المفسرين وايضا الفاظ متقاربه . اهون اهل النار عذا با
ابو طالب وهو منتعل بنعلين يغلى منهما دماغه . كتاب الفتن باب
صفة النار و اهلها (مرقاۃ ج ۹ ص ۶۳۰، سیرة حلبیہ ج ۱ ص ۱۵۵، طبع بیروت)

امام بغوی رحمۃ اللہ علیہ زیر آیت وینؤمن عنه قال ابن عباس نزلت فی ابی
طالب عم النبی صلی اللہ علیہ وسلم کان ینہی المشرکین عن اذی
النبی صلی اللہ علیہ وسلم ویمنعه منهم وینائی هو نفسه عن الايمان
(تفسیر الخازن علی المعالم ج ۲ ص ۱۲۷ طبع بیروت)

Click For More Books

﴿۵۸﴾

خط کشیدہ عبارت پڑھیں کہ کفار کو ایذا دینے سے منع کرتے اور بذات خود ایمان نہ لاتے۔ امام ماتریدی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں زیر آیت مَا كَانَ لِلنَّبِيِّ وَالَّذِينَ آمَنُوا آيَةُ ابِطَالِبِ كَيْفَ تَقُولُ فِي حَقِّ مَنْ نَزَلَ بِهِ الْوَحْيُ۔ (تأویلات اہل سنت ج ۲ ص ۳۵۱)

امام ابی بکر احمد بن علی خطیب بغدادی المتوفی ۴۶۳ھ فرماتے ہیں:

شفعت في هؤلاء النفر في ابي وعمي ابي طالب واخي من الرضاة يعني ابن السعدية ليكونوا من بعد البعث هباء . هذا ان الحديث باطلان . اس حدیث کے تمام راوی کوئی ضعیف ہے کوئی منکر روایتیں نقل کرتا ہے کوئی مجہول ہے۔ (تاریخ بغداد ج ۳ ص ۸۷)

ابوطالب کو دوبارہ زندہ کر کے کلمہ پڑھانے والی تمام روایات منکر ہیں۔
سورۃ انعام آیت ۲۶: وَيُنُونَ عَنْهُ كَيْفَ تَقُولُ فِي حَقِّ مَنْ نَزَلَ بِهِ الْوَحْيُ
کئے جاتے ہیں جن سے ثابت ہوتا ہے کہ ابوطالب نے کلمہ نہیں پڑھا۔
وینہون عنہ کے تحت امام رازی رحمۃ اللہ علیہ لکھتے ہیں عبارت یوں ہے:

وقال عطاء و قتادة نزلت في ابي طالب . (تفسیر کبیر ج ۱۲، ص ۱۸۹، تفسیر بیضاوی
فلا یومنون بہ کاہی طالب بیضاوی ص ۱۷۲، الصاوی علی الجلائین ج ۲ ص ۹، عن ابن عباس رضی اللہ
عنہما سے آٹھ احادیث متعدد طرق سے مروی ہیں . عن ابن عباس ، حبیب بن ابی ثابت
فزلت فی اسی طالب تفسیر جامع البیان ج ۵ ص ۲۱۹، تفسیر فتح البیان نواب صدیق الحسن ج ۲ ص
۳۶۱) قرآن مجید کی متعدد آیات اور احادیث مبارکہ سے ثابت ہو گیا کہ اہل سنت کا
اجماع ہے کہ ابوطالب ایمان نہیں لایا۔ ایمان ابوطالب روافض کا ہے۔

الحديث رواه البخاري و مسلم وغيرهما محصل هذا ان النبي
صلى الله عليه وسلم لما هاجر استولى عقيل و طالب على الدار كلها
باعتبار ما ورثاه من ابيها لكونهما كانا لم يسلموا

Click For More Books

﴿۵۹﴾

(سنن دارقطنی عربی ج ۳ ص ۶۳، کتاب البیوع عن اسامة بن زید الحدیث)

خط کشیدہ عبارت سے صاف پتہ چل گیا کہ عقیل اور طالب مسلمان نہیں ہوئے۔

(بایں الفاظ المغنی ابن قدامہ فصل امام الکفار ج ۷ ص ۱۶۷ طبع بیروت، التجرید للقدوری ان ابا طالب

کان کافر ج ۵ ص ۲۶۳۸، نہر الفائق ج ۳ ص ۲۲۳، تبین الحقائق ج ۳ ص ۲۶۱، فتح القدر مع الکفایہ ج ۶ ص ۴،

ورث کافر بنیہ علی الہدایہ ج ۱۲ ص ۲۲۶، جمال الدین حنفی المفسر ج ۲ ص ۱۰۲، المنہاج شرح مسلم ج ۹ ص ۱۲۰، نیل

الادوار ج ۲ ص ۱۰۳، صحیح ابن حبان کتاب الاجار، حدیث ۵۱۳۹، شرح معانی الآثار باب بیع مکہ ارض، کتاب السیر

باب فتح مکہ، ان ابا طالب مات کافر ج ۵ ص ۶۳۶)

امام بدرالدین عینی حنفی رحمۃ اللہ علیہ کا فیصلہ پڑھئے۔

مَا كَانَ لِلنَّبِيِّ وَالَّذِينَ آمَنُوا ابا اسحاق الزجاج يقول في هذه الاية

اجمع المفسرون انها نزلت في ابي طالب ابوطالب پر اسلام پیش کیا تو آپ

نے انکار کر دیا۔ لفظ ابی نقل ہے۔

(باب اذا قال المشرك عند الموت عمدة القاری شرح صحیح بخاری کتاب الجمائز ج ۶ ص ۲۵۰ طبع پاکستان)

امام صاحب آگے لکھتے ہیں۔ ان العباس قال للنبي صلى الله عليه

وسلم يا ابن اخي ان الكلمة انهي عرضتها على عمك سمعه فقال له

النبي صلى الله عليه وسلم لم اسمع قال السهيلي لان العباس قال

ذلك في حال كونه على غير الاسلام ولو اداها بعد الاسلام لقبلت

منه. (عمدة القاری ج ۶ ص ۲۵۱)

حضرت عباس رضی اللہ عنہ والی روایت جن کا سہارا رافضی لیتے ہیں کہ میں نے

ابوطالب کو کلمہ پڑھتے سنا۔ اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خود فرمادیا کہ میں نے نہیں سنا۔

حضرت ابوطالب کی موت کے وقت خود مسلمان نہیں تھے تو امام سہیلی نے جواب دیا

کہ اگر وہ اسلام لانے کے بعد کہتے تو ہم مان لیتے۔ اس روایت کے دو جواب

ہوئے۔ امام صاحب نے امت کا اجماع بھی نقل کیا ہے۔ جملہ اجمع المفسرون سند

[Click For More Books](#)

<https://archive.org/details/@zohaibhasanattari>

سے لکھا۔

تابش قصوری جو کہ اکثر تراجم کتب کا چور ہے۔ اس کی بددیانتی اور کذب بیانی پر صد افسوس لبادہ سنیت کا ہے اور کام خارجیوں والے ہیں۔ ہم تابش کا اصل چہرہ عوام الناس کے سامنے دکھاتے ہیں کہ عبارات میں کتنا جھوٹ بولتا ہے اور لعنت اللہ علی الکاذبین کا مصداق بنتا ہے۔

تابش کی مترجم کتاب میرے پاس موجود ہے۔ اس کی نقل کردہ عبارت مندرجہ ذیل ہے۔ حضرت سیدنا امیر حمزہ رضی اللہ عنہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے حقیقی چچا اور آپ کی والدہ کے چچا کی صاحبزادی کے فرزند ارجمند اور آپ کے رضاعی بھائی ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارہ چچا تھے ان میں سے چار نے اسلام کو پایا (حضرت ابوطالب کی بابت اختلاف پایا جاتا ہے) مترجم نزہۃ المجالس مکمل ص ۳۸۷ قارئین کرام ہم اصل عربی عبارت پیش کرتے ہیں۔ ہمارے پاس نزہۃ المجالس عربی مصری کا نسخہ ہے۔ اصل عبارت یوں ہے۔

(باب مناقب حمزة رضی اللہ عنہ) هو عم النبی صلی اللہ علیہ وسلم وابن بنت عم امہ و اخوہ من الرضاعة کما تقدم فی المولد و کان له صلی اللہ علیہ وسلم اثنا عشر عما ادرك الاسلام منهم اربعة ابوطالب مات کافرا و حمزة والعباس اسلم (نزہۃ المجالس عربی ج ۲ ص ۲۳۹ طبع مصر) ابوطالب کی بابت اختلاف کی عبارت تابش قصوری کی خود ساختہ اور جھوٹ پر مبنی ہے۔ خط کشیدہ عبارت کا ترجمہ شیر مادر سمجھ کر پی گیا۔ نقل کردہ عبارت سے معلوم ہو گیا کہ تابش قصوری سید الکاذبین ہے۔

نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ابوطالب کے لئے دعا کرنے سے منع کیا گیا لا استغفرن
لك مالم انه عنك اقتضاء الصراط (ص ۳۳۵ طبع پاکستان)

Click For More Books

﴿۶۱﴾

عن علی رضی اللہ عنہ قال اتیت النبی صلی اللہ علیہ وسلم
فقلت ان عمک الشیخ الضال قدمات یعنی اباہ قال اذهب فوارہ،

(سنن الکبریٰ بیہقی کتاب الجنائز ج ۳ ص ۳۹۸ ترجمہ)

سیدنا علی رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ میں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت
میں پیش ہو کر عرض کیا: آپ کا بوڑھا گمراہ چچا فوت ہو گیا ہے۔ تو آپ نے فرمایا: جا
اسے دبا آ۔ اس حدیث پاک سے عقیدہ سیدنا علی رضی اللہ عنہ ثابت ہو گیا کہ ابوطالب
گمراہی پر فوت ہوا۔

عن الشعبي قال لما مات ابو طالب جاء علی الی النبی صلی اللہ
علیہ وسلم فقال ان عمک الشیخ الکافر قدمات فما تری فیہ قال اری
ان تغسیل و امرہ بالغسل (مصنف ابن ابی شیبہ ج ۳ ص ۲۲۸)

اسی سند سے ملتی جلتی حدیث میں ان الشیخ الضال کا جملہ نقل ہے۔

امام شہاب خفاجی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں: (وَيَنْهَوْنَ عَنْهُ) انعام ضمیر
الجمع ابی طالب حاشیة الشہاب علی البیضاوی تفسیر ج ۴ ص
۶۵ طبع بیروت)

ما کان للنبی زریآیت فرماتے ہیں۔ روی انہ علیہ السلام قال لابی
طالب لما حضرہ الوفاة قل كلمة احاج لك بها عند الله فابی فقال علیہ
السلام لا ازال استغفر لك مالم انه عنه فنزلت حاشیة الشہاب ج ۴ ص
(۶۳۸)

نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت ہے کہ جب ابوطالب پر وقت نزع طاری ہوئی
تو آپ نے فرمایا: ابوطالب تو کلمہ پڑھ لے میں تیرے لئے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں
جھگڑا کروں جب تک مجھے منع نہ کیا جائے تو میں تیرے لئے دعا۔ نے مغفرت کروں

Click For More Books

﴿ ۶۲ ﴾

گا۔ آگے چل کر لکھتے ہیں:

والجمهور علی انہا فی ابی طالب فانہ لما احتضر جاء رسول
اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال یا عم قل لا الہ الا اللہ کلمة احاج بہا عند
اللہ قال یا ابن اخی قد علمت انک لصادق ولکنی اکرہ ان یقول جزع
عند الموت۔ (حاشیۃ الشہاب علی البیہاوی ج ۷ ص ۳۰۹)

چند طور آگے نقل ہے۔ (والجمهور علی انہا) اشارۃ الی الرد علی
بعض الرافضة اذ ذهب الی اسلامہ وفی تفسیر الزجاج من قوله جمع
المفسرون (حاشیۃ الشہاب ج ۷ ص ۳۰۹)

حضرت عباس بن عبدالمطلب سے مسلم شریف میں روایت ہے کہ انہوں نے
آپ سے پوچھا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ سے ابو طالب کو کوئی نفع ہوگا بے شک
وہ آپ کی حمایت کرتے رہے اور لوگوں سے غصے ہوتے تھے! فرمایا: ہاں وہ جہنم کے
کنارے پر ہیں۔ اگر میں نہ ہوتا تو وہ جہنم کے نچلے طبقہ میں ہوتے۔

(خصائص الکبریٰ ج ۱ ص ۱۵۹، اردو، عربی ج ۱ ص ۱۳۷)

خطیب اور ابن عساکر حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما کہتے ہیں میں نے رسول
اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے سنا کہ میں اپنے باپ اور چچا ابو طالب اور رضاعی بھائی
ابن سعدیہ کے بیٹے کے لئے شفاعت کروں گا کہ وہ بعثت کے بعد ذرات بن
جائیں۔ خطیب اس روایت کی سند میں کلام کرتے ہیں کہ اس روایت کی سند میں
خطاب بن عبدالدائم الاسوقی ضعیف ہے اور یحییٰ بن مبارک صنعانی سے منکر روایات
نقل کرنے میں مشہور ہے اور صنعانی خود مجہول ہے اور منصور بن معتمد لیث بن ابی سلیم
سے روایت کرتا ہے جبکہ لیث بن ابی سلیم ضعیف ہے۔ امام جلال الدین سیوطی رحمۃ
اللہ علیہ فرماتے ہیں ابو طالب کی موت کفر پر ہوئی۔ الابۃ ما کان للسنی والذین

Click For More Books

<https://archive.org/details/@zohaibhasanattari>

الایة فاشتد على النبي صلى الله عليه وسلم موت ابى طالب على الكفر (خصائص کبریٰ ج ۱ ص ۱۳۸ اردو ج ۱ ص ۱۶۰، ترجمہ خصائص راجہ رشید محمود طبع فرید بک سٹال لاہور) مذکورہ حدیث سے پتا چل گیا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا عقیدہ بھی کفر ابی طالب کا ہے۔ خط کشیدہ عبارت تابش قصوری کو اور اس کے حواریوں کو منہ چڑا رہی ہے۔ ابو طالب کا کفر بیان کرنا اگر گالی ہے تو صحابہ کرام تابعین کرام اور ائمہ کرام علیہم الرضوان تمام سب کرنے کے مرتکب ہوئے۔ مذکورۃ الصدر سے تابش قصوری رافضی کے تمام سوالات ہبَاء مَنُورًا ہو گئے۔

امام الحدیث امام ابن حجر عسقلانی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں:

ابوداؤد والنسائی و احمد و اسحاق و البزار عن علی لمات ابو طالب انطلقت الی النبی صلی اللہ علیہ وسلم فقلت له ان عمك الشيخ الضال قدمات قال اذهب فوار اباك الحدیث و ایضا فی مسند ابو یعلی ان ابن ابی شیبہ قال فی روایة ان عمك الشيخ الکافر قدمات

(الدرایہ ص ۱۳۵، کتاب الجنائز) مذکورہ حدیث کا ترجمہ ہم پیچھے کر آئے ہیں۔

(باب کافر کا مسلمان ولی ہو تو اسے غسل دے، کفن دے کر دفن کر دے) حوالہ جات مندرجہ ذیل ہیں۔

(باب میراث اہل السلام عن اسامة رضی اللہ عنہ کتاب الفرائض، سنن الکبریٰ بیہقی ج ۶ ص ۲۱۸، کتاب الام للشافعی ج ۴ ص ۹۱، شرح معانی الآثار باب بیع الارض مکتہ عن اسامة رضی اللہ عنہ علی وجعفر مسلمین۔ ابو طالب و عقیل کافرین، المستدرک حدیث نمبر ۶۱۷۸، مشکل الآثار للطحاوی، نہر الفائق باب استیلاء الکفار عن اسامة

Click For More Books

﴿۶۳﴾

رضی اللہ عنہ بدائع الصنائع فصل فی الغسل المیت، محیط برہانی باب غسل الکافر فصل ثانی
ج ۲ ص ۱۸۴، عنایہ شرح ہدایہ، اذامات الکافر ج ۲ ص ۱۳۲، بنایہ شرح ہدایہ ج ۳ ص
۳۳۷، باب الغسل المیت وفی ابن ماجہ عربی عبارت یوں ہے:

حدثنا هشام بن عمار و محمد بن الصباح مالا ثنا سفیان بن
عینیہ عن الزهری عن علی بن الحسین عن عمرو بن
عثمان عن اسامة بن زید رفعه الى النبي صلى الله عليه
وسلم قال لا يرث المسلم الكافر ولا الكافر المسلم
وايضا . عن اسامه بن زيد انه قال يا رسول الله اتنزفي دارك
بمكة قال هل ترك لنا عقيل من ربا ع او دور و كان ورث ابا
طالب هو و طالب ولم يرث، جعفر ولا على شيئا لانهما
كان مسلمين و كان عقيل و طالب كافرين فكان عمر من
اجل ذلك يقول لا يرث المؤمن الكافر قال اسامة قال
رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يرث المسلم الكافر ولا
الكافر المسلم

(ابن ماجہ شریف عربی ص ۱۹۶، باب میراث اہل الاسلام من اہل الشریک ترجمہ، اردو ج ۳ ص ۲۵۲)

ترجمہ: حضرت اسامہ بن زید رضی اللہ عنہ بیان کر چکے ہیں۔ انہوں نے عرض کی
یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیا آپ مکہ میں اپنے گھر میں پڑاؤ کریں گے تو نبی صلی اللہ
علیہ وسلم نے دریافت کیا کیا عقیل نے ہمارے لئے کوئی زمین یا گھر چھوڑا ہے۔ راوی
کہتے ہیں عقیل ابوطالب کے وارث بنے تھے۔ عقیل اور ابوطالب ان کے وارث بنے
تھے لیکن حضرت جعفر رضی اللہ عنہ اور حضرت علی رضی اللہ عنہ وارث نہیں بنے تھے کیونکہ
یہ دونوں مسلمان تھے۔ عقیل اور ابوطالب دونوں کافر تھے۔ مذکورہ حدیث سنداً صحیح ہے

Click For More Books

<https://archive.org/details/@zohaibhasanattari>

﴿۶۵﴾

اور اس حدیث میں علی بن الحسین رضی اللہ عنہ بھی روای ہیں۔ تو معلوم ہو گیا کہ تمام صحابہ رضی اللہ عنہم اور علی بن حسین رضی اللہ عنہ کا بھی یہی عقیدہ ہے کہ ابوطالب مسلمان نہیں تھے۔ ادلہ شرعیہ سے ہم نے مسئلہ ابوطالب کی نوعیت بیان کر دی۔ میں نہ مانوں کا علاج کوئی نہیں ہے۔ آیت قرآنی اور حدیث اور ائمہ فقہائے کرام علیہم الرضوان کی تصریحات سے ہم نے ثابت کر دیا ہے کہ ابوطالب کی موت اسلام پر نہ ہوئی۔ ایمان ابی طالب روافض کا عقیدہ ہے اہل سنت کا عقیدہ نہیں ہے۔ اللہم لا تجعلنا من زمرة الفاسقین۔ بجاہ سید المرسلین آمین۔

مذکورہ بالا حدیث متعدد کتب میں نقل ہے۔

(بخاری شریف ص ۱۳۶۸ طبع بیروت، بخاری شریف ص ۳۲۱، مسلم شریف ص

۵۳۱، طبع بیروت، سنن ابوداؤد شریف ج ۱ ص ۲۷۵، کتاب المناسک، مسند احمد ج ۵ ص ۲۰۱، سنن الصغریٰ بیہقی ج ۲ ص ۲۵۸ پوری سند سے نقل ہے۔

امام برہان الدین صاحب المحیط برہانی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں۔

باب لا یصلی علی الکافر لقوله تعالی لا تصل علی احد منهم وردی انه لمات ابو طالب جاء علی رضی اللہ تعالی عنہ الی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وقال ان عمک الضال قدمات فقال علیہ الصلوۃ والسلام غسلہ وکفنه وادفنه ولا تحدثن به حدثا حتی تلقانی ولا تصل علیہ لان الصلاة علی المیت دعاء و استغفار له والا استغفار للکافر

حرام (المحیط برہانی ج ۳ ص ۸۲)

کافر پر نماز پڑھنے کا باب: سیدنا علی رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ جب

ابوطالب فوت ہوا تو میں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہو کر عرض کیا

[Click For More Books](#)

﴿۶۶﴾

بے شک آپ کا گمراہ سچا فوت ہو گیا ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: اسے غسل دے اور کفن دے اور دفن کر دے اور کوئی نئی بات نہ کرنا یہاں تک کہ ابوطالب کو دفن کر دیا اور فرمایا: اس پر نماز جنازہ اور دعا نہ مانگنا کیونکہ دعا اور جنازہ کافر پر حرام ہے۔

ابن قدامہ مقدسی رحمۃ اللہ علیہ کا فیصلہ پڑھے۔ باب اذامات کافر مع مسلمین) لما روى عن علي رضي الله عنه قال قلت للنبي صلى الله عليه وسلم ان عمك الشيخ الضال قدمات فقال النبي صلى الله عليه وسلم اذهب فواره (المغنی والشرح الكبير ج ۲ ص ۳۱۵ طبع بیروت) ترجمہ: اس حدیث کا پیچھے ہو گیا ہے اس حدیث سے بھی ثابت ہو گیا کہ سیدنا علی رضی اللہ عنہ کا عقیدہ ہے کہ ابوطالب کی موت کفر پر ہوئی۔ سیدنا و امامنا امام علی قاری رحمۃ اللہ علیہ اسی طرح فرماتے ہیں۔ (فتاویٰ الملا علی القاری ج ۲ ص ۳۳ طبع پاکستان)

عقائد نسفی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں: ابا طالب والد علی رضی اللہ عنہ کان یحبہ النبی صلی اللہ علیہ وسلم ویحفظہ ولكن مات علی الکفر کما فی الصحیح البخاری و مسلم خلافا للشیعة (شرح عقائد نسفی ص ۵۲۸) بے شک ابوطالب سیدنا علی رضی اللہ عنہ کے والد ہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے طبعی محبت کرتے تھے اور ان کی حفاظت کرنے کے باوجود ان کی موت کفر پر ہوئی جیسا کہ بخاری و مسلم کی صحیح حدیث سے ثابت ہے۔ رافضی شیعہ اس کے خلاف عقیدہ رکھتے ہیں۔ نقل کردہ عبارت سے معلوم ہوا کہ ایمان ابی طالب کا عقیدہ اہل تشیع کا ہے۔ اہل سنت و الجماعت کا نہیں ہے اور یحب اور یحفظ کا جملہ لکھ کر خود امام صاحب نے رد کر دیا کہ طبعی محبت اور حفاظت سے ایمان ثابت نہیں ہوتا جیسا کہ ہم زرقانی اور ابن کثیر کی عبارت ہم پیچھے نقل کر آئے ہیں۔ دوبارہ ہم لکھتے ہیں۔ یحبہ جباً شدیداً طبعیاً لا شرعیاً نقل ہے۔ ابوطالب کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت

Click For More Books

﴿۶۷﴾

رشتے داری کی وجہ سے تھی، شرعی محبت نہیں تھی۔ طبعی محبت سے ایمان ثابت نہیں ہوتا جیسا کہ اعلیٰ حضرت مجدد دین و ملت رحمۃ اللہ علیہ نے اپنے رسالہ رضویہ جلد دوم کی ابتدا میں جواب لکھا، وہاں دیکھ لیں، جب شرح متن کے خلاف ہو تو متن مقدم ہوتا ہے۔ فتاویٰ نوریہ، فتاویٰ شامی میں نقل ہے۔ اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ علیہ کی بات کے آگے کسی بھی شخص کی کوئی بات حجت نہیں۔ الحکم الاکثر کما نقل فی اصول الشاشی۔

علامہ محمد خضریٰ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں: توفی عمہ ابو طالب کان یمنعہ من اذی اعدائہ آگے لکھتے ہیں: ان یخفف عنہ وعدم اسلامہ،

(نور الیقین فی سیرۃ سید المرسلین ص ۵۴)

شیعہ امامیہ کا عقیدہ پڑھے: اِنَّكَ لَا تَهْدِي مَنْ اَحْبَبْتَ وَلَكِنَّ اللَّهَ يَهْدِي مَنْ يَشَاءُ (القمر ص ۵۶)، نزلت فی ابی طالب ورووا ان علیا علیہ السلام جاء الی رسول الله صلی الله علیہ وآلہ وسلم بعد الموت ابی طالب فقال له ان عمک الضال قد قضی.....

(شرح نہج البلاغہ ابن الحدید التوتی ۶۵۹، ج ۱۴، ص ۳۸ طبع بیروت، لبنان)

واما الذین زعموا انه کان مسلما فقد رووا خلاف ذلك واسند واخبر الی امیر المؤمنین علیہ السلام . چند سطور آگے نقل ہے۔ وَمَنْ يُشَاقِقِ الرَّسُولَ مِنْ بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُ الْهُدَىٰ وَيَتَّبِعْ غَيْرَ سَبِيلِ الْمُؤْمِنِينَ (سورۃ النساء ۵۵) او بعدها انک ان لم تقر بایمان ابی طالب (شرح نہج البلاغہ ج ۱۴ ص ۳۹) نقل کردہ دو روایات سے ثابت ہو گیا کہ عند الشیعہ بھی ابو طالب کا ایمان ثابت نہیں اور حدیث بھی سنداً سیدنا علی رضی اللہ عنہ کی ہے۔ مولا علی مشکل کشا رضی اللہ عنہ نے ابو طالب کی موت کے بعد ان عمک الضال کا جملہ ارشاد فرمایا تو حضرت علی رضی اللہ عنہ سے بڑھ کر گواہی عند اہل سنت قبول نہیں ہے۔ اس شرح کے متعلق خود ابن الحدید

Click For More Books

<https://archive.org/details/@zohaibhasanattari>

﴿۲۸﴾

لکھتا ہے۔ کاف لشیعتنا ابتدا میں نقل ہے۔ آگے لکھتا ہے۔ ان ابا طالب

اسرا الایمان واظهر الشرك

(شرح نوح البلاغہ ج ۳ ص ۳۰) والیضانی اصول الکافی ج ۱ ص ۳۳۸ طبع تہران کتاب الحج

مذکورہ روایت سے ابوطالب کا مشرک ہونا ثابت ہو گیا۔ اصحاب کہف سے تشبیہ دینا جہالت پر مبنی ہے کیونکہ اصحاب کہف کو تو جان کا خطرہ تھا۔ ابوطالب کو کون سا خطرہ تھا۔ ابوطالب نے زمانہ نبوۃ پایا اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اصرار کے باوجود کلمہ نہیں پڑھا۔ ابوطالب کے کفر پر سیدنا علی رضی اللہ عنہ کی حدیث شاہد ہے سو گزر سہ تے گنڈھ سرنے ثانی سوئے محمد دا کوئی نہیں

شاہ عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ کا عقیدہ پڑھئے۔

ابا طالب بدانکہ مشائخ حدیث و علمائے سنت براین اند کہ ایمان ابوطالب ثبوت نہ پذیرفتہ و در صحاح است کہ آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم در وقت وفات بر سروے آمدہ و عرض اسلام کرد و وے قبول نہ کرد پس آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم گفت من واللہ استغفار می کنم مرتراتا آن زماں کہ منع کردہ نشوم پس این آیت نازل شد مَا كَانَ لِلنَّبِيِّ وَالَّذِينَ آمَنُوا أَنْ يَسْتَغْفِرُوا لِلْمُشْرِكِينَ .

(شرح العقائد بر میزان العقائد ص ۱۵۶)

ترجمہ: جان تو کہ ابوطالب کے متعلق محدثین و علمائے اہل سنت کہ ابوطالب کا ایمان لانا ثابت نہیں اور صحاح حدیث میں ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم وقت وفات ابوطالب کے پاس آئے اور ان پر اسلام پیش کیا تو ابوطالب نے قبول نہ کیا، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: میں تیرے لئے

Click For More Books

<https://archive.org/details/@zohaibhasanattari>

﴿۶۹﴾

استغفار کرتا ہوں جب تک مجھے منع نہ کیا جائے گا تو سورۃ توبہ کی آیت

مبارک نازل ہوئی۔ مَا كَانَ لِلنَّبِيِّ وَالَّذِينَ آمَنُوا

مجدد الدین فیروز آبادی رحمۃ اللہ علیہ کا عقیدہ: (شرح سفر سعادت فارسی ص ۱۸۸)

(ابو محمد ثناء اللہ شجاع آبادی لکھتا ہے) مقاتل رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ

ابوطالب نے اپنی موت کے وقت کہا تھا اے بنی ہاشم! محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت

کرو ان کو سچا مانو اور فلاح و ہدایت پالو، اس پر آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے

فرمایا: اے چچا! آپ جو نصیحت دوسروں کو کر رہے ہیں اس پر خود عمل کیوں نہیں

کرتے۔ ابوطالب نے کہا: بھتیجے تم کیا چاہتے ہو؟ آپ نے فرمایا: میں چاہتا ہوں کہ

آپ لا الہ الا اللہ کہہ دیں تاکہ میں اللہ تعالیٰ کے حضور میں آپ کے لئے اس کلمے

کے کہنے کی گواہی دے سکوں۔ ابوطالب نے جواب دیا، بھتیجے میں جانتا ہوں کہ تم سچے

ہو لیکن میں نہیں چاہتا کہ میرے بعد لوگ شرم دلائیں وغیرہ وغیرہ۔ آنحضرت صلی اللہ

علیہ وسلم بار بار ابوطالب سے کلمہ پڑھنے کو کہتے اور وہ انکار کرتے رہے۔ یہاں تک کہ

انہوں نے یہ بھی کہہ دیا کہ میں عبدالمطلب کے دین پر مرتا ہوں تو رسول اللہ صلی اللہ

علیہ وسلم نے فرمایا: خدا کی قسم میں اس وقت تک تمہارے لئے مغفرت کی دعا مانگتا

رہوں گا جب تک کہ مجھے اللہ تعالیٰ ہی اس سے روک نہ دے۔ اس پر اللہ تعالیٰ نے یہ

آیت نازل فرمائی:

مَا كَانَ لِلنَّبِيِّ وَالَّذِينَ آمَنُوا أَنْ يَسْتَغْفِرُوا لِلْمُشْرِكِينَ

(سیرۃ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ص ۱۰۰، تفسیر سراج منیر خطیب شربنی ج ۳ ص ۱۵۷ طبع پاکستان)

حضور داتا گنج بخش علی ہجویری رحمۃ اللہ علیہ کا عقیدہ، عبارت یوں ہے:

وا از مخلوقات کسی را قدرت آن نیست کہ کسی بخدائی

رساند مستدل از ابو طالب عاقل تر نباشد و دلیل از محمد

Click For More Books

<https://archive.org/details/@zohaibhasanattari>

﴿۷۰﴾

صلی اللہ علیہ وسلم بزرگتر نہ چون جریان حکم ابوطالب بر
شقاوت بود و دلالت مصطفی صلی اللہ علیہ وسلم ویرا سود
نداشت (کشف المحجوب فارسی ص ۲۱۰)

فصل معرفت خداوند۔ ترجمہ: کسی مخلوق کی یہ طاقت کہ وہ بندے کو خدا تک پہنچا
دے۔ استدلال کرنے والا ابوطالب سے زیادہ عاقل نہ ہوگا اور حضور اکرم صلی اللہ
علیہ وسلم سے بڑھ کر کوئی بزرگ تر دلیل نہ ہوگی اور جبکہ ابوطالب کو شقاوت پر اجرائے
حکم تھا تو حضور کی دلالت اسے فائدہ نہ دے سکی۔ (کشف المحجوب اردو ص ۳۵۸) حضور داتا
علی ہجویری رحمۃ اللہ علیہ نے بھی فیصلہ دے دیا کہ ابوطالب ایمان نہیں لایا اب بھی اگر
کوئی ٹیس ٹیس کرے تو اس کا ٹیس ٹیس کرنا بے سوا جہل ہونے کی نشانی ہے۔
قرآن پاک میں ہے:

وَاتَّقُوا يَوْمًا لَا تَجْزِي نَفْسٌ عَنْ نَفْسٍ شَيْئًا وَلَا يَقْبَلُ مِنْهَا
شَفَاعَةً (ایمان ابی طالب ص ۱۳۵)

تابش قصوری حافظ ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ نے مذکورہ آیت کا شان نزول لکھا
ہے۔ یعنی

من الکافرین کما قال فما تنفعهم شفاعۃ الشافعیین و کما

قال عن اهل النار۔ (تفسیر ابن کثیر عربی ج ۱ ص ۸۹ طبع بیروت)

مفسر قرآن ابن عباس رضی اللہ عنہما فرماتے ہیں: لا تجزی نفس عن نفس کے تحت لکھتے
ہیں: لا تغنی نفس کافرة عن نفس کافرة من عذاب اللہ (تفسیر ابن عباس ج ۱ ص
۷، عربی اردو ج ۱ ص ۲۷) کسی کافر جان کو کسی کافر سے کوئی فائدہ نہ ہوگا اللہ تعالیٰ کے عذاب
سے۔

قاضی شامی نے فرمایا ہے: اللہ علیہ شان نزول میں فرماتے ہیں:

Click For More Books

زیر آیت: لا تجزی نفس - کافرة لایات والاحادیث الدالة علی
الشفاعة لاهل الكبائر وعلیه انعقد الاجماع (تفسیر مظہری عربی ج ۱ ص ۶۶)
صاحب تفسیر خازن ومدارک شان نزول یوں فرماتے ہیں:
لا تقبل الشفاعة اذا كانت النفس کافرة و ذلك ان اليهود قالوا
یشفع لنا اباؤنا فرد الله علیهم ذلك بقوله (تفسیر الخازن علی مدارک وایضاً تفسیر روح
البیان عربی ج ۱ ص ۱۲۶، تائش قصوری نے تفسیر بالرائے کر کے خارجیوں والا کام کیا ہے۔
آیت مہارک کافروں کے متعلق یعنی یہودیوں کے رد میں نازل ہوئی، اس کو مومنین
کے حق میں لکھ دیا۔ جب کہ قرآن مجید کی آیات مبارکہ ایمان والوں کی شفاعت کے
حق میں دال ہے۔ مَنْ ذَا الَّذِي يَشْفَعُ عِنْدَهُ إِلَّا بِإِذْنِهِ، إِلَّا بِإِذْنِهِ کی آیت تائش
قصوری اور ان کے حواریوں کو منہ چڑا رہی ہے اور تفسیر بالرائے کرنے والا ناری ہے۔
مسلمانوں کی شفاعت تین گروہ کریں گے۔ عن عثمان رضی اللہ عنہ قال قال
رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ثلاثة يشفع يوم القيامة الاتبياء
والعلماء والشهداء كما في المشكوة باب الشفاعة نبی صلی اللہ علیہ وسلم
نے فرمایا: تین گروہ گنہگاروں کی شفاعت کریں گے۔ انبیائے کرام علیہم السلام اور
علمائے کرام وشہداء کرام علیہم الرضوان۔ حدیث پاک سے پتہ چل گیا کہ مسلمانوں کی
مسلمان شفاعت کریں گے۔ باقی کفار کے متعلق خبر واحد بخاری شریف میں ہے۔
ابولہب کو پیر کے دن عذاب ہلکا ہوتا ہے۔ مطلق نجات نہیں اسی طرح ابوطالب کی
خدمت وغیرہ کا صلہ سے اس پر بھی ہلکا ہوگا۔ نار سے مکمل نجات نہیں ہوگی، جیسا کہ
پہلے گزر چکا ہے۔

ایمان والوں کے لئے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان پڑھے: "شفاعتي لاهل
الکبائر من امتي" ابولہب پر عذاب ہلکا ہونے سے اس کا ایمان ثابت نہیں ہوتا، ہم

Click For More Books

﴿۷۲﴾

نے تین آیات قرآنیہ نقل کی ہیں۔ تابش قصوری سے ہم سوال کرتے ہیں کہ وہ ابوطالب کے ایمان پر ایک نص قرآنی پیش کریں قیامت تک تابش اور اس کی روحانی ذریت نہیں پیش کر سکیں گے۔ ہم نے اجماع امت سے ثابت کیا ہے کہ ابوطالب کی موت کفر پر ہوئی۔ تابش قصوری بھی اجماع امت سے ابوطالب کا ایمان ثابت کریں ورنہ اپنے باطل عقیدے سے توبہ کریں اور آخرت کی فکر کریں۔ ہم نے جلیل القدر اولیائے کرام و عوٹ اعظم و داتا علی ہجویری و خواجہ نظام الدین رضوان اللہ علیہم اجمعین سے ثابت کر دیا ہے۔ ان تمام بزرگوں کی تصدیقات خصوصاً اعلیٰ حضرت بریلوی رضی اللہ عنہ سے واضح کر دیا ہے۔ اب اوں آں کرنے کی گنجائش باقی نہ رہی۔

ایمان کی تعریف

شیخ الحدیث شاہ عبدالحق دہلوی رحمۃ اللہ علیہ کی زبانی سنئے۔

یہ بات ذہن نشین کرنی چاہیے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو صرف سچا نبی جان لینے کا نام ہی ایمان نہیں بلکہ دل سے اس کی تصدیق کرنا بھی ضروری ہے کیونکہ علم اور چیز ہے اور تصدیق اور چیز ہے۔ چند سطور آگے لکھتے ہیں۔ یہودی تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو سچا نبی جانتے تھے اور یہ علم اتنا مضبوط تھا جیسے کہ وہ اپنے بیٹوں کو پہچان رہے ہوں یعرفون کما یعرفون ابناء وہم (تخیل الايمان ص ۹۲) لکھتے ہیں اللہ تعالیٰ کی وحدانیت اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کا قلبی طور پر یقین کرنے کا نام ایمان ہے اور ان دونوں چیزوں کا زبان سے اقرار کرنا بھی ضروری ہے دل سے یقین کرنا ایمان کی حقیقت ہے اور زبان سے تصدیق کرنا ایمان کی علامت ہے کیونکہ زبان دل کی ترجمان ہوتی ہے اور زبان کے اقرار کے بغیر دل کا حال معلوم نہیں ہو سکتا۔ (تخیل الايمان ص ۹۱) مذکورہ عبارت سے واضح ہو گیا ہے کہ زبان سے انکار کرنا ایمان دار ہونے کی علامت نہیں۔ ابوطالب کے متعلق اسی کا جملہ احادیث صحیحہ سے ثابت ہے اور نبی صلی

Click For More Books

<https://archive.org/details/@zohaibhasanattari>

﴿۷۳﴾

اللہ علیہ وسلم سے لم اسمع میں نے نہیں سنا جملہ ایمان کے منافی ہے۔ محدث علی بن حسن جزری المتوفی ص ۶۳۰ علیہ الرحمۃ ابوطالب کے متعلق سنداً حدیث مبارک نقل کرتے ہیں۔ عبارت یوں ہے:

اخبرنا محمد بن سرايا بن علي وغيره باسنادهم عن محمد بن اسماعيل حدثنا محمود حدثنا عبدالرزاق حدثنا معمر عن الزهري عن ابن المسيب عن ابيه ان اباطالب لما حضرته الوفاة دخل عليه النبي صلى الله عليه وسلم وعنده ابوجهل فقال اي عم قل لا اله الا الله كلمة احاج لك بها عند الله فقال ابوجهل و عبد الله بن ابي امية يا ابا طالب اترغب عن ملة عبدالمطلب فلم يزا الا يكلمانه حتى قال آخر كل شئى كلمهم على ملة عبدالمطلب فقال النبي صلى الله عليه وسلم لا ستغفرون لك ما لم انه عنه . (اسدالغالبه في معرفة الصحابة ج پنجم ص ۱۸۷ طبع بیروت، لبنان)

اس حدیث مبارک کا ترجمہ پیچھے گزر چکا ہے۔ یہ حدیث سنداً صحیح ہے۔ ابوطالب کے متعلق حافظ ابی یعلیٰ موصلی المتوفی ۳۰۷ھ لکھتے ہیں:

حدثنا سريج بن يونس حدثنا اسماعيل عن مجالد عن الشعبي عن جابر بن عبد الله قال سئل النبي صلى الله عليه وسلم عن ابي طالب هل تنفعه نبوتك قال نعم اخرجته من غمرة جهنم الى ضحضاح منها،

(مسند ابی یعلیٰ ج ۲ ص ۱۸۳ طبع بیروت)

مذکورہ حدیث شریف سنداً مرفوع ہے۔ اس کا ترجمہ بھی پیچھے گزر چکا ہے۔

Click For More Books

﴿۷۴﴾

ابوطالب کے متعلق امام نور الدین بیہقی المتوفی ۸۰۷ھ لکھتے ہیں۔
عن جابر بن عبد اللہ رضی اللہ عنہ ان رسول اللہ صلی اللہ
علیہ وسلم و سئل عن ابی طالب هل نفعته قال اخرجته من
جہنم الی ضحضاح منها،

(مجمع الزوائد ج ۹ ص ۳۵۹ طبع بیروت، حدیث نمبر ۱۵۲۷۲ کتاب المناقب)

وایضاً عن جابر بن عبد اللہ قال سئل النبی صلی اللہ علیہ
وسلم عن عمہ ابی طالب هل تنفعہ نبوتک قال نعم اخرجته
من غمرات جہنم الی ضحضاح منها (ج ۹ ص ۶۹۲)

حدیث نمبر ۱۶۱۷۷: رجالہ رجال الصحیح نقل کردہ حدیث کا ترجمہ بھی
پہلے گزر چکا ہے۔ ابوطالب کے متعلق حافظ عبدالغفار لکھنوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے
ہیں۔

فرمایا: حضرت علی رضی اللہ عنہ نے کہ جب خبر کی میں نے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم
کو ساتھ موت ابوطالب کے روئے پھر کہا واسطے میرے جلا اور غسل دے اس کو اور کفن
دے اس کو اور چھپا اس کو کہا حضرت علی رضی اللہ عنہ نے کہ کیا میں نے ایسا ہی کیا آیا میں
پھر فرمایا کہ جا اور غسل کر کہا اور تھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بخشش مانگتے واسطے ان کے
کئی دن تک اور نہ نکلے گھر سے یہاں تک کہ اترے جبرئیل علیہ السلام ساتھ اس کے کہ
نہیں جائز واسطے نبی کے اور ان لوگوں کے جو ایمان لائے کہ بخشش مانگیں مشرکوں کے
واسطے اس سے معلوم ہوا کہ مشرک کی بخشش اگرچہ نبی کے عزیز و اقارب میں سے
ہوئے نہیں ہوتی۔ (نور الہدایہ اردو شرح وقایع ج ۱ ص ۱۳۶)

حدیث مرسل کے متعلق ائمہ کرام علیہم الرضوان کا مذہب

نیز علامہ سیوطی لکھتے ہیں امام حاکم نے علوم الحدیث میں لکھا ہے کہ اہل مدینہ

Click For More Books

﴿۷۵﴾

سعید بن مسیب سے مراسل کی روایت کرتے ہیں اور اہل مکہ عطا بن ابی رباح سے مراسل روایت کرتے ہیں اور اہل شام مکحول سے اہل بصرہ حسن بصری سے اہل کوفہ ابراہیم بن یزید نخعی سے اور ان میں سے زیادہ صحیح مراسل ابن المسیب کی ہیں۔ ابن معین نے بھی یہی کہا ہے۔

(شرح مسلم شریف ص ۱۱۵، ۱۱۶ شیخ الحدیث غلام رسول سعیدی رحمۃ اللہ علیہ)

حکیم الامت مفسر قرآن و شیخ الحدیث مفتی احمد یار خاں نعیمی گجراتی رحمۃ اللہ علیہ کا عقیدہ۔ خیال رہے کہ حضور انور صلی اللہ علیہ وسلم کے خدمت گار چچا ابوطالب کافر کا عذاب ہلکا ہو سکتا ہے مگر ابوطالب کا عذاب دفع نہیں ہو سکتا ہے ابوطالب کا عذاب بہت ہلکا ہے۔ (ج ۷ ص ۲۱۲)

عین الہدایہ ترجمہ ہدایہ مقدمہ ج ۱ ص ۲۸ میں ”ابوطالب مات کافرًا“ لکھا ہے۔ والیضا موطا امام مالک ص ۱۴۰۶ عن علی بن الحسین رضی اللہ عنہ ہیں حدیث سے ثابت ہوا کہ اہل بیت کرام کے نزدیک ابوطالب کی موت کفر پر ہوئی۔

غزالی زماں رحمۃ اللہ علیہ کا عقیدہ

محبت کی دو قسمیں ہیں:

ایک طبعی اور ایک عقلی۔ طبعی یہ ہے کہ بندہ طبعاً کسی سے محبت کرے جیسا کہ ماں باپ، اولاد اور عزیز و اقارب سے محبت ہوتی ہے۔ دوسری عقلی محبت یہ ہے کہ عقلاً محبوب کو دوسری چیزوں پر ترجیح دے۔ طبعی محبت بندے کے اختیار میں نہیں ہوتی اور نہ ہی بندے کو اس کا مکلف کیا گیا ہے اور نہ ہی مدار ایمان ہے۔ اسی لئے ابوطالب مومن نہیں ہیں کیونکہ ان کو آپ سے محبت طبعی بھتیجا ہونے کی وجہ سے تھی اور آپ علیہ الصلوٰۃ والسلام کا کلمہ پڑھ کر ایمان نصیب نہیں ہوا۔ اس مسئلہ کی مکمل بحث اعلیٰ حضرت رتدس سرہ کے رسالہ ایمان ابوطالب میں مذکور ہے۔ (منتخب احادیث صفحہ ۱۰۱ غزالی زماں علامہ

Click For More Books

﴿۷۶﴾

احمد سعید کاظمی علیہ الرحمۃ ابو طالب کے متعلق شریف حسین سبزواری شیعہ نے ابو طالب پر رضی اللہ عنہ نہیں لکھا ہے۔ کوکب ذری صفحہ ۱۷۸-۱۷۹-۲۲۷-۲۲۸-۲۲۹-۲۳۰ تا ۲۵۲ نو جگہ ابو طالب پر رضی اللہ عنہ نہیں لکھا، اگر ابو طالب مسلمان ہوتے تو شریف حسین شیعہ مترجم ابو طالب پر جملہ رضی اللہ عنہ ضرور لکھتا۔

علامہ شیخ الحدیث غلام رسول سعیدی صاحب رحمۃ اللہ علیہ کا فیصلہ پڑھئے۔ شرح مسلم ج ۱، صفحہ ۳۸۸-۳۹۸، جامع اسباب النزول ص ۲۵۴۔ حدیث ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ زیر آیت: انک لا تھدی۔ القصص التوبہ: ما کان للنبی والذین امنوا فتح الباری ج ۸، ص ۳۳۱، فتح الباری ج ۸، ص ۵۰۶، فتح الباری ج ۷، ص ۱۹۳، سیرت ابن ہشام ج ۲، ص ۲۷، البدایہ والنہایہ ج ۳، ص ۱۲۳، مسند احمد ج ۱، ص ۲۵۸، البدایہ ج ۳، ص ۱۲۲، سیرت حلبیہ ج ۱، ص ۴۶۶، السیرۃ اشامیہ ج ۲، ص ۵۶۳، منقول از دلائل النبوة ج ۲، ص ۳۵۰، رسالہ النور ماہ ذوالحجہ ۱۳۴۶ھ اشرف علی تھانوی ص ۲۲۔ اہل سنت و جماعت کا معروف مذہب یہی ہے کہ ابو طالب نے کلمہ نہیں پڑھا۔ وما علمنا الا البلاغ المبین۔

ملا معین واعظ کاشفی ہروی علیہ الرحمۃ کا عقیدہ:

ابو طالب نے ایک شخص کو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں بھیجا کہ تیرا چچا کہتا ہے کہ میں بوڑھا کمزور اور بیمار ہوں، جنت سے تھوڑے سے کھانے پینے کی آرزو رکھتا ہوں، مجھے عنایت فرمائیے تاکہ وہ تندرستی کا باعث ہو۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ابو طالب کے قاصد کو کوئی جواب نہ دیا۔ حضرت ابو بکر صدیق خلیفہ اول رضی اللہ عنہ جو اس مجلس میں حاضر تھے نے جواب دیا کہ حق تعالیٰ نے جنت کے طعام و شراب کو کفار کے لئے حرام قرار دیا ہے۔ قاصد نے واپس جا کر صورت حال بیان کفار نے پھر ابو طالب سے کہا، دوسری مرتبہ پھر اسی شخص کو اسی غرض کے لئے بھیجا۔ اس دفعہ

Click For More Books

آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے خود فرمایا: ان اللہ حرمہما علی الکافرین۔ قاصد نے نبی علیہ الصلوٰۃ والسلام کو جواب دیا۔ قاصد کے پیچھے حضور صلی اللہ علیہ وسلم بھی ابوطالب کے گھر تشریف لائے۔ کو پہنچا دیکھا کہ گھر قریش سے بھرا ہوا ہے۔ آپ نے فرمایا: مجھے اپنے چچا کے ساتھ تھوڑی دیر ٹھہرنا ہے۔ آپ ذرا باہر تشریف لے جائیں کہنے لگے۔ آپ کی ان سے رشتہ دارنی ہے تو ہم بھی ان کے رشتہ دار ہیں تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم اُس کے سرہانے بیٹھ گئے اور فرمایا: چچا جان حق تعالیٰ آپ کو جزائے خیر دے کہ آپ نے بچپن میں میری کفالت کی۔ اور میرے بڑا ہو جانے پر میری رعایت اور شفقت میں دریغ نہیں کیا۔ اب وقت یہ ہے کہ آپ ایک کلمہ کہہ کر میری امداد کریں تاکہ قیامت کے روز میں خدا تعالیٰ کے پاس آپ کی شفاعت کروں۔ ابوطالب نے پوچھا: وہ کون سا کلمہ ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ کہہ دیجئے۔ ابوطالب نے کہا: میں یقیناً جانتا ہوں کہ آپ میرے خیر خواہ ہیں۔ خدا کی قسم! اگر مجھے یہ ڈرنہ ہوتا کہ آپ کو قریش سرزنش کریں گے اور کہیں گے کہ تیرا چچا موت سے ڈر گیا۔ میں ضرور کلمہ کہہ دیتا اور آپ کی آنکھیں ٹھنڈی کرتا۔ ایک اور روایت میں ہے کہ یہ ابیات اُس وقت پڑھے تو قریش نے جب اشعار سننے کو پکارا ٹھے کہ آپ اپنے بزرگوں عبدالمطلب ہاشم اور عبد مناف کی ملت سے منہ پھیرتے ہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اصرار کرتے تھے کہ چچا جان ایک بار اس کلمہ کو کہہ دو تاکہ قیامت میں آپ کے کام کو دلی تسلی کے ساتھ کر سکوں۔ ابو جہل، عبد اللہ، امیہ پھر اصرار کرتے تھے کہ اے ابوطالب! عبدالمطلب کے دین سے انحراف کرتا ہے یہاں تک کہ آخر کار اس نے کہا کہ ابوطالب اپنے بزرگوں کی ملت اور ایک روایت میں ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: چچا جان! کیا بات ہے کہ تمام لوگوں کو میری بات سننے اور پیروی کرنے کی وصیت کرتے ہو اور خود مخالفت کرتے ہو؟

Click For More Books

اُس نے کہا: خدا کی قسم! اگر تندرستی کی حالت میں ہوتا تو آپ کی اتباع کرتا۔ خدا کی قسم! مجھے یہ بات بُری معلوم ہوتی ہے کہ لوگ کہیں گے۔ ابوطالب مرتے وقت موت کے ڈر سے مسلمان ہوا اور صحت کی حالت میں مسلمان نہیں ہوا۔ بیان کرتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب ابوطالب کے ایمان لانے سے مایوس ہو گئے تو اس کے سر ہانے سے اُٹھ کھڑے ہوئے اور فرمایا: خدا کی قسم! حق تعالیٰ سے تمہارے لئے بخشش طلب کروں گا۔ ایک دوسری روایت میں ہے کہ جب ابوطالب کا مرض شدت اختیار کر گیا۔ قریش نے سمجھ لیا کہ وہ اس بیماری سے نجات نہیں پائے گا۔ ایک دوسرے سے کہا: اگرچہ ابوطالب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حمایت میں پوری کوشش کرتے تھے۔ اب وہ موت کے کندھوں پر سوار ہے۔ ہمیں اس کے بھتیجے کے کام سے غافل نہیں ہونا چاہئے۔ سیدنا حمزہ رضی اللہ عنہ سے بہادر کون عرب میں تھا۔ مسلمان ہو گیا سیدنا عمر رضی اللہ عنہ بھی مسلمان ہو گیا۔ ہر قبیلہ کے لوگ اُس کے دین میں داخل ہو چکے ہیں اور ہر روز اس کا کام ترقی پر ہے۔ اس کی آواز عرب قبائل میں پھیلتی جاتی ہے؛ جب وہ بلند مرتبہ ہو جائے گا تو اہل مکہ پر غالب ہو جائے گا۔ عتبہ، شیبہ، ابو جہل، امیہ بن خلف، ابوسفیان وغیرہ کی جماعت ابوطالب کے پاس آئی اور کہا: اے ابوطالب! ہم نے آپ کی سرداری کا اعتراف کیا۔ اہل بیت سے روایت ہے کہ وہ اس بات پر متفق نہیں کہ ابوطالب ایمان کے ساتھ فوت ہوا ہے، لیکن یہ روایت اہل سنت و جماعت کے مخالف ہے اور اس روایت کے مخالف بہت سے دلائل موجود ہیں۔

(دلیل نمبر ۱) جب ابوطالب فوت ہو گیا۔ سیدنا علی رضی اللہ عنہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہوئے اور عرض کیا: آپ کا گمراہ چچا بے شک فوت ہو گیا ہے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم رونے لگے اور فرمایا: جاؤ اسے نہلاؤ اور تکلفین و تجہینز کا انتظام کرو اور فرمایا: انہ مات مشرکاً۔ نیز فرمایا: اذهب فوارہ غفر اللہ له ورحمته جا

Click For More Books

﴿۷۹﴾

کر اسے دبا دو۔ خدا تعالیٰ اُسے بخشے خدا تعالیٰ اس پر رحمت کرے اگر مجھے منع نہ کیا گیا تو میں اس کے لئے بخشش طلب کروں گا۔

روایت میں ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ابوطالب کی وفات پر بہت رنجیدہ ہوئے روئے جنازہ کے ساتھ گئے اور فرماتے تھے۔ چچا جان! آپ نے صلہ رحمی کا حق ادا کیا۔ میرے حق میں کوئی کوتاہی نہیں کی۔ خدا تعالیٰ آپ کو جزائے خیر دے۔ حاصل کلام یہ کہ حضرت علی رضی اللہ عنہ کا فرمانا کہ *عبدك الشيخ الضال قدمات اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمانا: انہ قدمات مشرکاً ابوطالب کے کفر پر مرنے کی دلیل ہے۔*

(دلیل نمبر ۲) کئی روز تک نبی صلی اللہ علیہ وسلم ابوطالب کے لئے بخشش طلب کرتے رہے تو آیت پاک: *إِنَّكَ لَا تَهْدِي مَنْ أَحْبَبْتَ نازل ہوئی: مَا كَانَ لِلنَّبِيِّ وَالَّذِينَ نَازِلَ هُوَ تُو قَرَّآنِ كَرِيمِ كِي نَصِّ سَ ثَابِتِ هُوَ كِيَا كَه ابوطالب کا خاتمہ ایمان پر نہیں ہوا اور مذکورہ بالا روایت میں جنازہ کے ساتھ جانے کا ذکر مؤلف نے اپنی طرف سے زیادہ کیا اس وقت نماز جنازہ پڑھنے کا حکم نازل نہیں ہوا تھا۔*

(دلیل نمبر ۳) نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: جو کہ بخاری و مسلم میں روایت منقول ہے۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما عبارت یوں ہے: *اهون الناس عذاباً يوم القيامة ابي طالب له شراً كان من النار يغلي منها دماغه .* یعنی ابوطالب کا عذاب قیامت کے روز دوسرے تمام کافروں سے نرم اور ہلکا ہوگا۔ اس کے پاؤں میں آگ کی دو جوتیاں ہوں گی۔ ان جوتیوں کی گرمی سے اس کے سر کا مغز کھولتا ہوگا۔ اس کا خیال ہوگا کہ مجھ سے زیادہ کسی کو عذاب نہیں ہو رہا۔ معارج النبوة فارسی رکن سوم باب سوم موت ابوطالب ج ۳ ص ۶۰-۶۱ معارج النبوة اردو ج ۳ ص ۳۱۶-۳۲۲ آگے نقل ہے۔ کفر کی چار اقسام۔ چوتھی قسم یہ ہے۔ زبان سے خدا

[Click For More Books](#)

﴿۸۰﴾

تعالیٰ کا اقرار نہ کرے اور نہ ہی اس کے احکام کے سامنے اپنا سر تسلیم خم کرے، جیسے
ابوطالب کا کفر۔

(شبیر احمد عثمانی دیوبندی کا عقیدہ)

زیر آیت: مَا كَانَ لِلنَّبِيِّ وَالَّذِينَ آمَنُوا ابِطَالِبِ كَيْفَ كَانَ فِي قَوْلِهِمْ كَذِبٌ
هُوَ تَفْسِيرِ عُمَانِي ص ۲۶۵، ص ۵۰۶، الْقِصَصِ - إِنَّكَ لَا تَهْدِي

مولانا عبدالحی لکھنوی علیہ الرحمۃ کا عقیدہ

شرح الوقایہ کتاب الجنازہ ج ۱، ص ۲۰۹، سورۃ ص نزلت فی حق ابی طالب، تفسیر
مظہری عربی ج ۸، ص ۱۵۳-۱۵۵، تفسیر الخازن ج ۴، ص ۳۰، تفسیر جیلانی ج ۴، ص
۲۲۲، تفسیر ابن کثیر عربی ج ۴، ص ۲۷-۲۸، اردو ابن کثیر ج ۴، ص ۴۲۳، وقایہ اردو
ج ۱، ص ۱۳۶، عن جابر رضی اللہ عنہ مسند ابو یعلیٰ ج ۲، ص ۱۸۴، کتاب الثقات لابن
حبان ج ۱، ص ۲۶۔

Click For More Books

<https://archive.org/details/@zohaibhasanattari>